

اصالتِ کل، امامتِ کل، سیادتِ کل، امارتِ کل  
حکومتِ کل، ولایتِ کل، خدا کے یہاں تمہارے لئے

اضیفہ شدہ ایڈیشن

# حکومتِ رسول اللہ ﷺ

صراطِ نبوی ﷺ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

• نبی کریم ﷺ نے روزہ کا کفارہ معاف فرمادیا۔

• پانچ کے بجائے دو نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی۔

• اگر حضور ﷺ سائل کو ہاں فرمادیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔

• چاند کے دو ٹکڑے فرمادیئے۔

• ڈوبا سورج واپس پلٹا دیا۔

• سورج کو ڈوبنے سے روک دیا۔


مصنف

استاذ الفقہ والحديث  
مفتی محمد ہاشم خان عطاری مدظلہ

مکتبہ امام اہلسنت

0332-9292026





اصالتِ کل، امامتِ کل، سیادتِ کل، امارتِ کل  
حکومتِ کل، ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لئے

# حکومت رسول اللہ ﷺ کی

مصنف

مفتی محمد ہاشم خان العطارى المدنى مدظلہ العالی

مکتبہ امام اہلسنت، لاہور

فون: 0332-9292026

0332-1632626

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

297-9921

ح 45 8

۱۲۵۵۸۳

نام کتاب ----- حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

مصنف ----- مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدظلہ العالی

صفحات ----- 176

قیمت ----- روپے

اشاعت اول ----- ربیع النور 1435ھ، جنوری 2014ء

ناشر ----- مکتبہ امام اہلسنت، لاہور

فون: 0332-9292026

## اجمالی فہرست

صفحہ	
11	مقدمہ: اختیارات مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت
	<b>الباب الاول:</b>
25	سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات تشریحیہ کے بارے میں حدیث مبارکہ۔
	<b>فصل اول:</b>
26	اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی یک کو یا چند لوگوں کو حکم عام سے مستثنیٰ فرمادیا۔
	<b>فصل ثانی:</b>
53	اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں حکم کی نسبت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو فرض یا حرام فرمادیا۔
	<b>فصل ثالث:</b>
59	اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ حکم کی تبدیلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف تھی، مگر حکم تبدیل نہ فرمایا۔
	<b>الباب الثانی:</b>
63	سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات تکوینیہ کے بارے میں احادیث مبارکہ۔

❁ ❁ ❁

صفحہ نمبر	مضمون
11	مقدمہ: اختیارات مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت
25	باب اول: اختیارات تشریحیہ
26	فصل اول:
26	روزے کا کفارہ معاف فرمادیا۔
27	صرف دو نمازیں پڑھنے کی اجازت۔
28	یہی رخصت حضرت فضالہ کو عطا فرمائی۔
28	بعض لوگوں کو زکوٰۃ اور جہاد میں رخصت۔
29	چھ ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی۔
30	عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی چھ ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی۔
31	ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نوحہ کی اجازت۔
32	یہی اجازت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی۔
33	یہی اجازت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی۔
33	یہی اجازت ایک بڑھیا کو بھی عطا فرمائی۔
34	وفات شوہر کے سوگ کو صرف تین دن فرمادیا۔
35	سورت سکھانے کو مہر فرمادیا۔
37	خرزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دیکھی گواہی قبول۔
38	خرزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دو مردوں کے برابر۔
38	سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جوانی میں رضاعت۔

39	ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت عطا فرمادی۔
40	حالت جنابت میں دخول مسجد کی اجازت۔
40	یہی اجازت ازواج مطہرات اور بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی عطا فرمادی۔
40	سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت۔
42	سراقہ بن مالک کو کنگن پہننے کی اجازت۔
43	حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی کہ اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھیں۔
44	غیر حاضری کے باوجود مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔
45	حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رخصت۔
46	حضرت حبان بن منقذ کو خاص رخصت۔
47	عصر کے بعد دو رکعت کی رخصت۔
49	حج میں خاص شرط کی اجازت۔
50	دوسرا نکاح منع فرمادیا۔
52	سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔
53	<b>فصل ثانی:</b>
53	اگر کوئی مانگنے والا مانگتا تو۔
53	گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف فرمادی۔
54	یتیم اور عورت کی حق تلفی کو حرام فرمایا۔
54	شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کا بیچنا حرام فرمایا۔
55	زنا کو حرام فرمادیا۔

55	مدینہ منورہ کو حرم بنایا۔
56	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔
56	پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ازخرگھاس کا حرم سے استثناء فرمادیا۔
57	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیع کو حرم بنا دیا۔
58	وضو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض فرمایا۔
59	<b>فصل ثالث:</b>
59	ہاں فرمادیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔
59	نمازِ عشاء کو مؤخر نہ فرمایا۔
60	مسواک کو فرض فرمادیتے اگر چاہتے۔
60	ہر نماز کے وقت تازہ وضو فرض فرمادیتے اگر چاہتے۔
61	ہر نماز کے وقت خوشبو لگانا فرض فرمادیتے اگر چاہتے۔
63	<b>باب دوم: اختیارات تکوینیہ</b>
64	چاند کو دو ٹکڑے فرمادیا۔
64	اشارہ جدھر چاند اُدھر۔
67	سورج روک دیا۔
67	سورج پلٹا دیا۔
70	بادلوں پر حکومت۔
71	بارش پر حکومت۔
73	انگلی کا اٹھانا اور بادلوں کا آنا۔
73	انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے۔



76	کوچ کرنے تک۔
76	مشک کی خوشبو۔
77	پانی پر حکومت۔
78	تھوڑا سا حلوہ اور تین سو آدمی۔
80	بیماری بھی دور، خوشبو بھی عطا۔
81	آنکھ عطا فرمادی۔
83	بصارت عطا فرمادی۔
83	دھتی آنکھ ٹھیک فرمادی۔
84	کٹاہاتھ جوڑ دیا۔
85	ٹوٹی پنڈلی لمحے میں درست فرمادی۔
85	سلمہ بن اکوع کی پنڈلی بھی درست فرمادی۔
86	ناپینا آنکھوں کو دکھانے والے، بہرے کانوں کو سنانے والے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کرنے والے۔
87	ہر قسم کی کنجیاں دی گئیں۔
87	قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
87	خزانے لٹانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
88	زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔
89	اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔
90	اگر خاموش رہتے تو۔
90	دودھ کا ایک پیالہ اور تمام اصحاب صفہ۔
93	کھجوریں ہی کھجوریں۔

94	صحابی نے جنت مانگ لی۔
98	مالک جنت۔
99	تیرے لیے جنت میں درخت۔
99	اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمی کر دیا
100	حافظہ عطا فرمایا۔
100	علم، ہیبت، شجاعت اور کرم عطا فرما دیا۔
101	جو چاہے مانگ۔
105	تو نے بہت تھوڑا مانگا۔
106	اونٹ کی فریادری فرمائی۔
109	ہرنی کی فریادری۔
111	اونٹ پر حکومت۔
111	گواہ کی گواہی۔
113	بکریاں سجدے میں۔
114	اونٹ سجدے میں۔
114	گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔
115	اچانک شیر آیا۔
116	سب کے فریادری۔
118	مست اونٹ۔
119	بکری کے بازو نے کلام کیا۔
120	ام معبد کی بکری۔
122	تمام لشکر سیر ہو گیا۔



123	پہاڑوں اور درختوں پر حکومت۔
124	زمین کے مالک اللہ و رسول ہیں۔
124	زمین پر حکومت۔
127	کھجوروں پر حکومت۔
128	پتھروں اور کھانے پر حکومت۔
132	بکری زندہ ہوگئی۔
133	حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمایا۔
134	بچی کو زندہ فرما دیا۔
135	پہاڑوں پر حکومت۔
135	درختوں پر حکومت۔
137	درخت قدموں میں۔
138	درخت کا آنا اور جانا۔
139	کھجور کے خوشہ پر حکومت۔
140	کھجور کے تنے پر حکومت۔
140	مالک جنت نے جنت کا اختیار دے دیا۔
141	درخت اور پتھر سجدے میں۔
144	لکڑی تلوار بن گئی۔
145	سردی پر حکومت۔
145	گرمی سردی پر حکومت۔
146	ابوطالب کے عذاب میں کمی کر دی۔
147	تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا۔

148	عزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔
149	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاشع ہیں۔
151	تم سفینہ ہو۔
152	تجھے استطاعت نہ ہو۔
153	آج رات ہوا چلے گی۔
153	تو ایسا ہی ہو جا۔
154	جب بھی کوئی شے سنی حفظ کر لی۔
155	مرتے دم تک شکایت نہ ہوئی۔
155	پاگل عقل مند ہو گیا۔
156	سینے پر ہاتھ پھیرا تو۔
157	شفا، جوانی، نیکی اور شہادت۔
157	اس کی عقل عام لوگوں کی سی نہیں۔
159	ہاتھ درست ہو گئے۔
160	میں گواہی دیتی ہوں۔
161	صرف اشارے سے۔
167	<b>ماخذ و مراجع</b>



الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين  
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم  
 الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

## مُقَدِّمَةٌ

### اختیارات مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت

اختیارات کی دو قسمیں ہیں:

#### (1) تشریحیہ:

یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔

#### (2) تکوینیہ:

جیسا کہ زندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، کسی سے مصیبت دور کر

دینا وغیرہ وغیرہ۔

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات اپنے

محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔

### تشریحی اختیارات:

تشریحی اختیارات کی پھر دو صورتیں ہیں:

(1) حکم عام میں سے کسی کی تخصیص کر دینا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿﴾ ترجمہ

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کریں اللہ ورسول کسی بات

کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا اور جو حکم نہ مانے اللہ ورسول کا وہ صریح

گمراہی میں بہکا۔

(پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 22)

یہاں ائمہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل طلوع آفتاب اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور متبنی (لے پالک بیٹا) بنایا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا، اول تو راضی ہوئیں اس گمان سے کہ حضور اپنے لئے خواستگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ! میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا، اس پر یہ آ یہ کریمہ اتری، اسے سن کر دونوں بہن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تائب ہوئے اور نکاح ہو گیا۔

(الجامع لاحکام القرآن (امام قرطبی) ج 14، ص 165، دارالکتب العربی، بیروت) ﴿۱﴾ (الدر المنثور، ج 6، ص 537، 638، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزوجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پر خواہی نخواستہ راضی ہو جائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفونہ ہو خصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کو اکب ثریا سے بھی بلند و بالا تر ہو، بایں ہمہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر رب العزۃ جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض الہ کے ترک پر فرمائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہوگئی مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے گا صریح گمراہ ہو جائے گا دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے



اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح و جائز امر تھا، ولہذا ائمہ دین خدا اور رسول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اقویٰ ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے جیسا کہ میزان الشریعة الکبریٰ کے حوالے سے آگے آرہا ہے۔

صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزدیکی کی۔ فرمایا: غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، اتنے میں کھجوریں خدمت اقدس میں لائی گئیں، حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کر دے، عرض کی: اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر؟ مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں ((فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ)) رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور فرمایا: جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان الخ، ج 1، ص 259، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب الہبۃ، باب اذا وهب هبة الخ، ج 1، ص 354، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحريم الجماع فی نہار الخ، ج 1، ص 314، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی كفارة الفطر الخ، ج 2، ص 175، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن ابی داود، کتاب الصیام، باب كفارة من اتى اهله فی رمضان، ج 1، ص 325، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (سنن ابن ماجہ، ابواب ما جاء فی الصیام، باب ما جاء فی كفارة من افطر الخ، ص 121، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 241، 281، المكتبة الاسلامی، بیروت) ☆ (مسند الدارمی، کتاب الصیام، باب الذی یقع علی امرأته فی شہر رمضان، ج 1، ص 343، 344، دارالمحاسن للطباعة، قاہرہ) ☆ (سنن الدارقطنی، کتاب الصیام، باب القبلة

للصائم، ج 2، ص 409، 410، دار المعرفۃ، بیروت) ☆ (سنن الدارقطنی، کتاب الصیام، باب القبلة  
للصائم، ج 2، ص 436، دار المعرفۃ، بیروت) ☆ (السنن الکبریٰ، کتاب الصیام، باب کفارة من اتى  
اهله فی نہار رمضان، ج 4، ص 221، 222، دار صادر، بیروت)

حکم عام یہ ہے کہ جو شخص قصداً روزہ توڑے تو اس پر لازم ہے کہ یا تو وہ غلام  
آزاد کرے یا پھر دو مہینے روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے ان کو مستثنیٰ کر دیا۔

مسند امام احمد میں بسند ثقات رجال صحیح مسلم ہے ((ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا  
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا ضَلُوتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ  
مِنْهُ)) ترجمہ: ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر  
ہو کر اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم نے قبول فرمایا۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 25،  
المکتب الاسلامی، بیروت)

پوری امت کے لیے حکم یہ ہے کہ روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، مگر نبی  
مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس حکم عام سے مستثنیٰ فرما دیا۔

امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں ”من  
خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخص من شاء بما  
شاء من الاحکام“ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور  
شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے مستثنیٰ فرمادیتے۔

(المواہب اللدنیة، المقصد الرابع، ج 2، ص 689، المکتب الاسلامی، بیروت)



علامہ زرقانی نے شرح میں بڑھایا ”مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا“ کچھ احکام ہی کی خصوصیت نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الرابع، ج 5، ص 322، دارالمعرفة، بیروت)  
امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ شریف میں ایک باب وضع فرمایا ”بَابِ اخْتِصَاصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ يَخْصُ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ“ باب اس بیان کا کہ خاص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

(الخصائص الكبرى، ج 2، ص 262، مرکز اہلسنت، گجرات الہند)  
آپ رحمۃ اللہ علیہ ”انموذج اللیب“ میں فرماتے ہیں ”وَيَخْصُ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ كَجَعَلَهُ شَهَادَةَ خَزِيمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ“ ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہیں جس حکم کے ساتھ خاص فرمادیں جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دو آدمیوں کے قائم مقام کر دی۔

(انموذج اللیب فی خصائص الحبيب، ج 1، ص 207، وزارة الاعلام، جدہ)  
ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے ”خصوصیۃ لہ لاتكون لغيرہ اذ كان لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یخص من شاء بما شاء من الاحکام“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو بخشی (کہ چھ ماہ کی بکری کی قربانی ان کے لئے جائز فرمادی) جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، کتاب العیدین، ج 2، ص 657، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)  
علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وَلِلشَّارِعِ اَنْ يَخْصَّ مِنَ الْعُمُومِ“

مَا شَاءَ“ ترجمہ: نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہیں خاص فرمادیں۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی نہی النساء عن النیاحۃ، ج 1، ص 304، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حاشیہ سنندی علی سنن نسائی میں ہے ”هَذَا الترخيص خاص فی أم عطیة وللشارع أن یخص من یشاء“ ترجمہ: یہ رخصت خاص طور پر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں کسی حکم سے خاص فرمادیں۔

(حاشیہ سنندی علی سنن نسائی، ج 7، ص 149، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عَدَّ ائِمَّتَنَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ (اللَّهُ) أَنَّهُ يَخْصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ، كَجَعْلِهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَتَيْنِ“ ترجمہ: ائمہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے شمار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں خاص فرمادیں جیسا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دو کے قائم مقام بنا دیا۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب السجود وفضله، ج 2، ص 723، دارالفکر، بیروت)

(2) کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کی نسبت اپنی طرف کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ﴿لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ پچھلے دن پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔

(ب 10، سورۃ التوبہ، آیت 29)

صحیحین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے انہوں نے سوال فتح



میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ،  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)) بیشک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب  
اور مردار اور سوز اور بتوں کا بیچنا۔

(صحیح البخاری، کتاب البیوع باب بیع المیتة والاصنام، ج 1، ص 298، قدیمی کتب خانہ،  
کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحريم الخمر والمية الخ، ج 2، ص 23، قدیمی کتب  
خانہ، کراچی)

صحیحین میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ((حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حَرْمًا))  
تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا اور اس کے آس پاس بارہ  
بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

(صحیح البخاری، فضائل المدینة، باب حرم المدینة، ج 1، ص 251، قدیمی کتب خانہ،  
کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة، ج 1، ص 442، قدیمی کتب خانہ،  
کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 487، المکتب الاسلامی  
بیروت) ☆ (المصنف لعبد الرزاق، کتاب حرمة المدینة، ج 9، ص 260، المجلس العلمی، بیروت)

امام عارف باللہ سید عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”کان  
الحق تعالیٰ جعل له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يشرع من قبل نفسه ماشاء كما في  
حديث تحريم شجر مكة فان عمه العباس رضي الله تعالى عنه لما قال له يا رسول  
الله الا الاذخر فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا الاذخر ولو ان الله تعالى لم يجعل له  
ان يشرع من قبل نفسه لم يتجرأ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يستثنى شيئاً مما حرمة الله  
تعالى“ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا  
کہ شریعت میں جو حکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کے  
نباتات کو حرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ

کاٹنے سے ممانعت فرمائی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! اذخر کو اس حکم سے نکال دیجئے۔ فرمایا: اچھا نکال دی، اس کا کاٹنا جائز کر دیا۔ اگر اللہ سبحانہ نے حضور کو یہ رتبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مقرر فرمائیں تو حضور ہرگز جرأت نہ فرماتے کہ جو چیز خدا نے حرام کی اس میں سے کچھ مستثنیٰ فرمادیں۔

(میزان الشریعة الکبریٰ، فصل فی بیان جملة من الامثلة المحسوسة الخ، ج 1، ص 60، دارالکتب العلمیة، بیروت)

امام عارف باللہ سید عبدالوہاب شغرائی فرمے: الربانی میزان الشریعة الکبریٰ باب الوضو میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں ”کان الامام ابو حنیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اکثر الائمة ادباً مع اللہ تعالیٰ ولذلك لم يجعل النية فرضاً وسمى الوتر واجباً لكونهما ثبتا بالسنة لا بالكتاب فقصد بذلك تمييز ما فرضه الله تعالى وتمييز ما اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ما فرضه الله تعالى اشد مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات نفسه حين خيره الله تعالى ان يوجب ما شاء او لا يوجب“ ترجمہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر ائمہ میں ہیں جن کا ادب اللہ عزوجل کے ساتھ بہ نسبت اور ائمہ کے زائد ہے اسی واسطے انہوں نے وضو میں نیت کو فرض نہ کیا اور وتر کا نام واجب رکھا کہ یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں نہ کہ قرآن عظیم سے، تو امام نے ان احکام سے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرض میں فرق و تمیز کر دیں اس لئے کہ خدا کا فرض کیا ہوا اس سے زیادہ مؤکد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرض کر دیا جبکہ اللہ عزوجل نے حضور کو اختیار دے دیا تھا کہ جس بات کو چاہیں واجب کر دیں جسے نہ چاہیں نہ کریں۔



(میزان الشریعة الكبرى، باب الوضوء، ج 1، ص 147، دارالکتب العلمیة، بیروت)

میزان مبارک میں شرعی حکم کی کئی قسمیں کیں، ایک وہ جس پر وحی وارد ہوئی

، پھر فرمایا ”الثانی ما اباح الحق تعالیٰ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسنہ علی رایہ ہو  
کتحریم لبس الحریر علی الرجال وقوله فی حدیث تحریم مکه الا الا  
ذخر ولو لا ان الله تعالیٰ کان یحرم جمیع نبات الحرم لم یستن صلی اللہ علیہ  
وسلم الا ذخر ونحو حدیث لو لا ان اشق علی امتی لا خرت العشاء الی ثلث  
الیل ونحو حدیث لو قلت نعم لوجبت ولم تستطیعوا فی جواب من قال  
له فی فریضة الحج اکل عام یارسول الله قال لا ولو قلت نعم لوجبت  
وقد کان صلی اللہ علیہ وسلم یخفف علی امتہ وینہاہم عن کثرة السؤال ویقول  
اترکونی ماترکتکم اہ باختصار“ ترجمہ: شرعی حکم کی دوسری قسم وہ ہے جس کے  
بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب عزوجل نے ماذون فرمادیا کہ  
خود اپنی رائے سے جو راہ چاہیں قائم فرمادیں، مردوں پر ریشم کا پہننا حضور نے اسی طور  
پر حرام فرمایا اور اسی حرمت مکہ سے گیاہِ اذخر کو استثناء فرمادیا۔ اگر اللہ عزوجل نے مکہ  
معظمہ کی ہر جڑی بوٹی کو حرام نہ کیا ہوتا تو حضور کو اذخر کے مستثنیٰ فرمانے کی کیا حاجت  
ہوتی۔ اور اسی قبیل سے ہے حضور کا ارشاد کہ اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں  
عشاء کو تہائی رات تک ہٹا دیتا۔ اور اسی باب سے ہے کہ جب حضور نے حج کی فرضیت  
بیان فرمائی، کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا: نہ، اور اگر  
میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے اور پھر تم سے نہ ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ  
حضور اپنی امت پر تخفیف و آسانی فرماتے اور مسائل زیادہ پوچھنے سے منع کرتے  
اور فرماتے ہیں مجھے چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑوں۔

(میزان الشریعة الكبرى، فصل شریف فی بیان الذم من الاثمة الخ، ج 1، ص 67، دارالکتب العلمیة،

بیروت)

شیخ محقق اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”  
احکام مفوض بود بوسے صلی اللہ علیہ وسلم بقول صحیح“ ترجمہ: قول  
صحیح کے مطابق احکام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد تھے۔

(اشعة اللمعات، باب الاضحیة، الفصل الاول، ج 1، ص 609، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

## تکوینی اختیارات:

اسی طرح تکوینی اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ترجمہ: منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے  
انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

(پ 10، سورۃ التوبة، آیت 74)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے  
میں کمی کی سید عالم معنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا  
أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: ابن جمیل کو کیا برا لگا یہی نا کہ وہ محتاج  
تھا اللہ و رسول نے اسے غنی کر دیا، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين، ج 1، ص 198، قدیمی  
کتب خانہ، پشاور)

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں  
نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ((إِنِّي أَسْمَعُ  
مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أُنْسَاهُ؟ قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتَهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ  
قَالَ: ضَمَّهُ فَضَمَّمْتَهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ)) ترجمہ: میں نے آپ سے بہت سی  
حدیثیں سنی ہیں لیکن وہ سب بھول گئیں، حضور نے فرمایا اپنی چادر پھلاؤ میں نے پھیلا دی  
تو آپ نے لپ بھر کر اس میں ڈال دیا پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لو میں نے لگالی، پس



میں اس کے بعد کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ (صحیح البخاری، ج 1، ص 35، دار طوق النجاة)  
 امام اجل احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ہو صلی اللہ علیہ وسلم  
 خلیفة اللہ الاعظم الذی جعل خزائن کرمہ و موائد نعمہ طوع یدیہ  
 و تحت ارادته يعطی من یشاء“ ترجمہ: وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے وہ  
 خلیفہ اعظم ہیں کہ حق جل و علا نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان  
 کے ہاتھوں کے مطیع انکے ارادے کے زیر فرمان کر دئے جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے  
 ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(الجوہر المنظم، الفصل السادس، ص 42، المكتبة القادرية جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

مقدمہ رسالہ شاہ عبدالعزیز میں ہے ”حضرت امیر و ذریعہ طاہرہ  
 اور اتمام امت بر مثال پیران و مرشدان می پرستند و امور  
 تکوینیہ را با ایشان وابستہ میدانند“ ترجمہ: حضرت امیر (مولا علیؑ) اللہ  
 تعالیٰ وجہ الکریم اور ان کی اولاد کو تمام امت اپنے مرشد جیسا سمجھتی ہے اور امور تکوینیہ کو  
 ان سے وابستہ جانتی ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب بیفتم در امامت، ص 214، سہیل اکیڈمی، لاہور)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ  
 الرحمن فرماتے ہیں ”احکام الہی کی دو قسمیں ہیں: تکوینیہ مثل احیاء و اماتت و قضائے  
 حاجت و دفع مصیبت و عطاء دولت و رزق و نعمت و فتح و شکست و غیر ہا عالم کے  
 بندوبست۔

دوسرے تشریحیہ کہ کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح  
 کر دینا۔

مسلمانوں کے سچے دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر

خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریحی کی اسناد بھی شرک۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان کے لیے خدا کی الوہیت میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین میں اور راہیں نکال دی ہیں جن کا خدا نے انہیں حکم نہ دیا۔ (پ 25، سورۃ الشعراء، آیت 21)

اور بروجہ عطائی امور تکوین کی اسناد بھی شرک نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أُمْرًا﴾ قسم ان مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔

(پ 29، سورۃ النزعت، آیت 5)

اور ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد ہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرمادیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرمادیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ((فَرُؤِي مَا تَرَكَكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكثيرةِ سؤَالِهِمْ وَأَخْتِلَافِهِمْ عَلَي أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فادْعُوهُ)) ترجمہ: مجھے چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑوں کہ اگلی امتیں اسی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہوئیں تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم فرماؤں تو جتنی ہو سکے بجالاؤ اور جب کسی بات سے منع فرماؤں تو اسے چھوڑ دو۔

(سبعین مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ج 1، ص 432، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ۶۴ (سنن السنن، کتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، ج 2، ص 1، نور محمد کارخانہ، کراچی) ۶۴ (سنن ابن ماجہ، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص 2، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

یعنی جس بات میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھو دکھو نہ پوچھو کہ پھر واجب حرام کا حکم فرمادوں تو تم پر تنگی ہو جائے۔

۱۴۵۵۸۴

یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا نہ حکم دیا نہ منع فرمایا وہ مباح و بلا حرج ہے۔ وہابی اسی اصل اصیل سے جاہل ہو کر ہر جگہ پوچھتے ہیں خدا اور رسول نے اس کا کہاں حکم دیا ہے۔ ان احمقوں کو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ خدا اور رسول نے کہاں منع کیا ہے، جب حکم نہ دیا نہ منع کیا تو جواز رہا، تم جو ایسے کاموں کو منع کرتے ہو اللہ و رسول پر افراتفراتے بلکہ خود شارع بنتے ہو کہ شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں اور تم منع کر رہے ہو۔ مجلس میلاد مبارک و قیام و فاتحہ و سوم وغیرہا مسائل بدعت و ہابیہ سب اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حجۃ الخلف بقیۃ السلف خاتمة المحققین سیدنا الوالد فری مرہ الساجد نے کتاب مستطاب اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد میں اس کا بیان اعلیٰ درجہ کاروشن فرمایا ہے۔  
 فنور اللہ منزله و اکرم عنده نزله امین۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 30، ص 511، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں اُن کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انھیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زمین اُن کی ملک ہے، تمام جنت اُن کی جاگیر ہے، ملکوت السموات والارض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دیدی گئیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔



احکام تشریحیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے، کہ جس پر جو چاہیں حرام فرمادیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرمادیں۔

(بہار شریعت، حصہ 1، ص 80 تا 85، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب  
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

# الباب الاول اختیارات تشریحیہ

## اختیارات تشریحیہ

اختیارات تشریحیہ سے مراد کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا ہے۔

### فصل اول:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص یا چند لوگوں کو حکم عام سے مستثنیٰ فرمادیا۔

### روزے کا کفارہ معاف فرمادیا

**حدیث:** صحاح ستہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی: ((هَلْ كُنْتُ)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا: ((وَمَا شَأْنُكَ؟)) ترجمہ: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی: ((وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ)) ترجمہ: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے صحبت کر لی۔ فرمایا: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً)) ترجمہ: غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی: ((لَا)) ترجمہ: نہیں، فرمایا: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) ترجمہ: لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: ((لَا)) ترجمہ: نہیں، فرمایا: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) ترجمہ: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی: ((لَا أَجِدُ)) ترجمہ: میں نہیں پاتا، ((فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ)) اتنے میں کھجوروں کا ٹوکڑہ خدمت اقدس میں لایا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) ترجمہ: انہیں ملو اور خیرات کر دو، عرض کی: ((أَعْلَىٰ أَفْقَرٍ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا)) ترجمہ: اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر؟



مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں۔

((فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ)) ترجمہ: رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور فرمایا: جا اپنے گھر والوں کو کھلا دئے۔

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان الخ، ج 1، ص 259، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب المہبۃ، باب اذا وهب هبة الخ، ج 1، ص 354، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحريم الجماع فی الخ، ج 1، ص 314، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی كفارة الفطر الخ، ج 2، ص 175، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن ابی داود، کتاب الصیام، باب كفارة من اتى اهله فی رمضان، ج 1، ص 325، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (سنن ابن ماجہ، ابواب ما جاء فی الصیام، باب ما جاء فی كفارة من افطر الخ، ص 121، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہزیرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 241، 281، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆ (مسند الدارمی، کتاب الصیام، باب الذی یقع علی امرأته فی شهر رمضان، ج 1، ص 343، 344، دارالمنحاسن للطباعة، قاہرہ) ☆ (سنن الدارقطنی، کتاب الصیام، باب القبلة للصائم، ج 2، ص 409، 410، دارالمعرفة، بیروت) ☆ (سنن الدارقطنی، کتاب الصیام، باب القبلة للصائم، ج 2، ص 436، دارالمعرفة، بیروت) ☆ (السنن الکبری، کتاب الصیام، باب كثارة من اتى اهله فی نهار رمضان، ج 4، ص 221، 222، دارصادر، بیروت)

سنن ابی داؤد میں امام شہاب زہری تابعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ”وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُحْصَةً لَهُ خَاصَّةً، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ“ ترجمہ: یہ خاص اسی شخص کیلئے رحمت تھی آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے چارہ نہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، ج 1، ص 325، آفتاب عالم پریس، لاہور)

## صرف دو نمازیں پڑھنے کی اجازت

حدیث: مسند امام احمد میں بسند ثقات رجال صحیح مسلم ہے ((ثَنَا مُحَمَّدٌ

بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَحَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَوَتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ)) ترجمہ: ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 25،  
المکتب الاسلامی، بیروت)

## یہی رخصت حضرت فضالہ کو عطا فرمائی

**حدیث:** حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَحَ فَمَا كَانَ فِيهَا عَلَمِي وَحَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْخُمْسِ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتَهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: حَافِظٌ عَلَى الْعَصْرِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لَغْتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا)) ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جو چیزیں سکھائیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرو، فرماتے ہیں، میں نے عرض کی: ان اوقات میں مجھے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ مجھے ایسا جامع حکم ارشاد فرمائیں جو مجھے کفایت کرے، فرمایا: عصرین کی پابندی کرو۔ ہماری لغت میں عصرین کا لفظ نہیں تھا، لہذا میں نے پوچھا کہ عصرین سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: فجر اور عصر کی نمازیں۔

(ابو داؤد، ج 1، ص 116، المکتبۃ العصریہ، بیروت)

## بعض لوگوں کو زکوٰۃ اور جہاد میں رخصت

**حدیث:** سنن ابی داؤد میں ہے ((عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ

وَمَا تَقْبَلُ لِمَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ

أَرْقَ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُجَبَّوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا خَيْرٌ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ)) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ان کے دل کو نرم کرنے کے لئے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، اہل وفد نے اسلام میں داخل ہونے کے لئے شرط رکھی کہ نہ تو وہ جہاد میں شمولیت اختیار کریں گے، نہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور نہ ہی نماز ادا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شرکت نہ کرنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ (سنن ابو داؤد، ج 3، ص 163، المكتبة العصرية، بيروت)

## چھ ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرمادی

**حدیث:** صحیحین (بخاری و مسلم) میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں عرض کی: یا رسول اللہ! وہ تو میں کر چکا اب میرے پاس چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ فرمایا: ((اجعلها مكانها ولكن تجزي عن أحد بعدك)) ترجمہ: اس کی جگہ اسے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

(صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب النخبة بعد العید، ج 1، ص 132، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب وقتہا، ج 2، ص 154، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت ہے ”خُصُوصِيَّةٌ لَهُ

لَا تَكُونُ لِغَيْرِهِ إِذْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنْ



الْأَحْكَامِ“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، کتاب العیدین، ج 2، ص 657، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

**عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی چھ ماہ کی**

**بکری کی قربانی جائز فرمادی**

**حدیث:** صحیحین میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے

ہیں: ((قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةً؟ قَالَ: ضَحَّ بِهَا)) ترجمہ: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قربانی کے لئے جانور عطا فرمائے، ان (حضرت عقبہ) کے حصے میں چھ ماہ کی بکری آئی، حضور سے عرض کیا: میرے حصے میں چھ ماہ کی بکری آئی ہے۔ فرمایا: ((ضَحَّ بِهَا)) ترجمہ: تم اسی کی قربانی کر دو۔

(صحیح البخاری، کتاب الاضاحی، باب قسمة الاضاحی بین الناس، ج 2، ص 832، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب سن الاضاحی، ج 2، ص 155، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

سنن بیہقی میں بسند صحیح اتنا اور زائد ہے۔ ((وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ

بَعْدَكَ)) ترجمہ: تمہارے بعد اور کسی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔

(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب لايجزى الجذع الخ، ج 9، ص 270، دارصادر، بیروت)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس

حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”احکام مفوض بود بوسے صلی اللہ علیہ وسلم بقول صحیح“ ترجمہ: قول صحیح کے مطابق احکام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے سپرد تھے۔

(اشعہ اللمعات شرح المشکوٰۃ، باب الاضحیۃ، ج 1، ص 609، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

## ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نوحہ کی اجازت

**حدیث:** صحیح مسلم میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب

بیعت زنان کی آیت اتری اور اس میں ہر گناہ سے بچنے کی شرط تھی کہ ﴿لَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔

(پ 28، سورۃ الممتحنہ، آیت 12)

اور مردے پر پین کر کے رونا چیننا بھی گناہ تھا، میں نے عرض کی: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا آلَ فُلَانٍ»)) ترجمہ: یا رسول اللہ! فلاں گھر والوں کو استثنا فرما دیجئے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا تو مجھے ان کی میت پر نوچے میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ مستثنیٰ کر دیئے۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، ج 1، ص 304، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اور سنن نسائی میں ارشاد فرمایا: ((أَذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا)) ترجمہ: جا ان کا ساتھ دے آ۔ یہ گئیں اور وہاں نوحہ کر کے پھر واپس آ کر بیعت کی۔

(سنن النسائی، کتاب البيعة، باب بيعة النساء، ج 2، ص 183، نور محمد کارخانہ، کراچی)

ترمذی کی روایت میں ہے۔ ((فَأَذِنَ لَهَا)) ترجمہ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نوحہ کی اجازت دے دی۔

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر، ج 5، ص 202، دار الفکر، بیروت)

مسند احمد میں ہے، فرمایا ((أَذْهَبِي فَكَافِيَهُمْ)) ترجمہ: جاؤ ان کا بدلہ اتار

آؤ۔ (مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 407، المکتب الاسلامی، بیروت)

علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 676ھ) اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّرْخِيصِ لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِي آلِ فُلَانٍ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا تَحِلُّ النِّيَاحَةُ لِغَيْرِهَا وَلَا لَهَا فِي غَيْرِ آلِ فُلَانٍ كَمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْحَدِيثِ“ ترجمہ: یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ یہ حضور نے خاص رخصت ام عطیہ کو دی تھی خاص آل فلاں کے بارے میں جیسا کہ ظاہر ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نوحہ کرنا حلال نہیں اور ام عطیہ کے لیے بھی آل فلاں کے علاوہ حلال نہیں جیسا کہ حدیث میں صریح ہے۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی نہی النساء عن النیاحۃ، ج 1 ص 304، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

مزید فرماتے ہیں ”وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاءَ“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہے خاص فرمادیں۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی نہی النساء عن النیاحۃ، ج 1 ص 304، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حاشیہ سند علی سنن نسائی میں ہے ”هَذَا التَّرْخِيصُ خَاصٌّ فِي أُمِّ عَطِيَّةَ وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ يَشَاءُ“ ترجمہ: یہ رخصت خاص حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں کسی حکم سے خاص فرمادیں۔

(حاشیہ سند علی سنن نسائی، ج 7، ص 149، المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

**یہی اجازت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی**

**حدیث:** عبد اللہ بن عباس سے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ((قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَأَخِي مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ فُلَانًا



أسعدتني وقد مات أخوها)) انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میرا باپ اور بھائی فوت ہوئے تو فلاں عورت نے میرا ساتھ دیا تھا اور اب اس کا بھائی فوت ہوا ہے۔

(فتح الباری لابن حجر، ج 8، ص 639، دارالمہرقة، بیروت) ☆ عمدة القاری، ج 19، ص 232، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

## یہی اجازت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی

**حدیث:** ترمذی میں اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی ایک نوحے کا بدلہ اتارنے کی اجازت مانگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، فرماتی ہیں: ((فَعَاتِبْتُهُ مِرَارًا، فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ، فَلَمَّا أَحَدٌ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ)) میں نے کئی بار حضور سے عرض کی، آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ اتارنے کی اجازت دے دی، ان کا بدلہ اتارنے کے بعد پھر میں نے کہیں نوحہ نہ کیا۔

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر، سورة الممتحنة، ج 5، ص 202، دارالفکر، بیروت) ☆ فتح الباری لابن حجر، ج 8، ص 639، دارالمعرفة، بیروت) ☆ عمدة القاری، ج 19، ص 232، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

## یہی اجازت ایک بڑھیا کو بھی عطا فرمائی

**حدیث:** حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ((أَدْرَكْتُ سَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيْمَنْ بَايَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَنْحَنَ، قَالَتْ الْعَجُوزُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي عَلَى مُصِيبَةٍ أَصَابَتْنِي، وَإِنَّهُمْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْعِدَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتْهُ فَبَايَعَتْهُ)) ترجمہ: میں نے اپنے خاندان کی ایک بڑھیا کو پایا ہے جو ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ

میں ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، بڑھیا بولی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مجھ پر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے میرے لیے نوحہ کیا تھا، اور اب ان پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ان کے لیے نوحہ کروں، (اجازت ملنے پر وہ گئیں اور نوحہ کر کے) واپس آئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث عجوز من الانصار، ج 27، ص 88، مؤسسة الرسالة، بیروت) فتح الباری لابن حجر، ج 8، ص 639، دار المعرفۃ، بیروت) عمدة القاری، ج 19، ص 232، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

## وفات شوہر کے سوگ کو صرف تین دن فرمادیا

**حدیث:** طبقات ابن سعد میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب ان کے شوہر اول جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ((تَسَلِّيْ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِيْ مَا شِئْتِ)) تین دن سنگار سے الگ رہو پھر جو چاہو کرو۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد، ذکر جعفر بن ابی طالب، ج 4، ص 41، دار صادر، بیروت) ☆ (کنز العمال، ج 9، ص 650، مؤسسة الرسالة، بیروت)

**فائدہ:** یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حکم عام سے استثناء فرمادیا کہ عورت کو شوہر پر چار مہینے دس دن عدت اور سوگ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں جو مریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔

(ب 2، سورة البقرة، آیت 234)

## سورت سکھانے کو مہر فرمادیا

**حدیث:** سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَعَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ نَحْكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَتْ شَيْئًا، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَمَسَتْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَتْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِلسُّورِ سَمَاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) ترجمہ: نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ! میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، وہ کافی دیر تک کھڑی رہی، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے فرمادیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اس کو دینے کے لئے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی: میرے پاس میرے اس تہبند کے علاوہ کوئی چیز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو اپنا تہبند اس کو دے دے گا تو پھر بغیر تہبند کے بیٹھے گا، کوئی اور چیز تلاش کرو، عرض کی میرے پاس کوئی چیز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ تلاش کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو، انہوں نے ڈھونڈا، کوئی چیز نہ ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ عرض کی: جی! یہ یہ سورتیں یاد ہیں یعنی ان سورتوں کے نام لئے جو انہیں



یاد تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تیرا نکاح قرآن کے بدلے اس عورت سے کر دیا۔

(جامع الترمذی، ج 3، ص 413، مصطفیٰ البابی، مصر ☆ ابو داؤد، باب فی التزوید علی العمل بعمل، ج 2، ص 236، المكتب العصریہ، بیروت)

اسی طرح کی ایک روایت ابو نعمان از دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، ایک شخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مہر دو۔ عرض کی: میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا ((اما تحسن سورة من القرآن فاصدقها السورة ولا يكون لاحد بعدك مهرا)) ترجمہ: کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی، وہ سورۃ سکھانا ہی اس کا مہر کر، اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔

(الاصابة فی تمييز الصحابة، ترجمہ ابو النعمان الازدی، ج 2، ص 267، دار الفکر، بیروت)

**فائدہ:** یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس حکم عام سے

مستثنیٰ فرما دیا کہ مہر مال ہونا چاہیے اور کم از کم دس درہم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو قید لاتے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔

(ب 5، سورة النساء، آیت 24)

سنن دارقطنی، سنن کبریٰ للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: ((عَنْ

عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو قَالَ: لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ)) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی، باب المہر، ج 4، ص 361، مؤسسة الرسالة، بیروت ☆ السنن الکبریٰ للبیہقی، باب ما يجوز ان يكون مهراً، ج 7، ص 393، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ مصنف ابن ابی شیبہ، باب ما قالوا

فی شہر النساء واختلافہم فی ذلك، ج 3، ص 493، مكتبة الرشد، الرياض)

## خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دیکھی گواہی قبول

**حدیث:** حضرت خزیمہ اور حدیث حارث بن اسامہ بن نعمان بن بشیر

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، وہ بیچ کر مگر گیا اور گواہ مانگا، جو مسلمان آتا اعرابی کو جھڑکتا کہ خرابی ہو تیرے لئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے (مگر گواہی نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ ہوا تھا) اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے گفتگوں کر بولے ((أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ)) میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم موجود تو تھے ہی نہیں تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کی ((بِتَّصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (وفی الثانی) صدقتک بما جئت به وعلمت انک لاتقول الا حقا (وفی الثالث) انا اصدقک علی خبر السماء والارض الا اصدقک علی الاعرابی)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، میں حضور کے لئے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے میں آسمان وزمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب اذا علم الحاکم صدق الخ، ج 2، ص 152، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (شرح معانی الآثار، کتاب القضاء والشہادات، کفایۃ شہادۃ خزیمہ الخ، ج 2، ص 310، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (کنز العمال، ج 13، ص 379، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) ☆ (المعجم الکبیر، ج 4، ص 87، المكتبة الفيصلية، بیروت) ☆ (اسد الغابۃ، ترجمہ خزیمہ بن ثابت، ج 1، ص 697، دار الفکر، بیروت) ☆ (کنز العمال، ج 13، ص 380، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت)

## خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دو مردوں کے برابر

**حدیث:** اس کے انعام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ

ان کی گواہی دو مردوں کی شہادت کے برابر فرمادی ((فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ)) ترجمہ: پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فرمادی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب اذا علم الحاكم صدق الخ، ج 2، ص 152، آفتاب عالم پریس لاہور)

اور ارشاد فرمایا ((مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةٌ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ))

ترجمہ: خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔

(المعجم الكبير، عن خزيمه، ج 4، ص 87، المكتبة الفيصلية، بيروت) ☆ (كنز العمال بحواله مسند ابى يعلى، ج 13، ص 380، مؤسسة الرساله، بيروت) ☆ (التاريخ الكبير، ج 1، ص 87، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة)

**فائدہ:** ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور نے قرآن عظیم کے دو

گواہوں والے حکم عام سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمادیا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ ترجمہ: اور اپنے میں دو ثقہ کو گواہ کر لو۔ (ب 28، سورة الطلاق، آیت 2)

## سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے جوانی میں رضاعت

**حدیث:** صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینت بنت ام

سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ابو حذیفہ کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! سالم (غلام آزاد کردہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میرے سامنے آتا جاتا ہے او وہ جوان ہے ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((أَرْضِعِيهِ حَتَّىٰ



يَدْخُلَ عَلَيْكَ)) اسے دودھ پلادو کہ بے پردہ تمہارے پاس آنا جائز ہو جائے۔

ام المؤمنین ام سلمہ وغیرہا باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا:

((وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أُرْخِصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَاصَّةً)) ترجمہ: اللہ کی قسم، ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے خاص مسلم کے لیے فرمادی تھی۔

(صحیح مسلم، کتاب الرضاع، فصل رضاعة الكبير، ج 1، ص 469، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

☆ (سنن النسائی، کتاب النکاح، باب رضاع الكبير، ج 2، ص 83، نور محمد کارخانہ، کراچی) ☆

(سنن ابن ماجہ، ابواب النکاح، باب رضاع الكبير، ص 141، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆

(مسند احمد بن حنبل، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ج 6، ص 39، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆

(مسند احمد بن حنبل، حدیث سهلة امرأة حذيفة رضی اللہ عنہا، ج 6، ص 356، المكتب

الاسلامی، بیروت)

## ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت عطا فرمادی

حدیث: صحاح ستہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ((رَخَّصَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، لِحِكَّةِ

بِهِمَا)) ترجمہ: عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں

خشک خارش تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی

اجازت دے دی۔

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ج 2، ص 868، قدیمی

کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب اباحة لبس الحرير للرجال الخ،

ج 2، ص 193، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب لبس الحرير

لعدو، ج 2، ص 205، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (سنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب من رخص

له في لبس الحرير، ص 265، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (سنن النسائی، کتاب الزينة، باب

الرخصة في لبس الحرير، ج 2، ص 297، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

## حالت جنابت میں دخول مسجد کی اجازت

**حدیث:** ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیؑ کو (یا علیؑ لا یحلُّ لأحدٍ یوجِبُ فی ہذا المسجِدِ غیری وغیرک) اے علی! میرے اور تمہارے سوا کسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں بحال جنابت داخل ہو۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب، ج 5، ص 408، دارالفکر بیروت) ☆ (مسند ابن یعلیٰ، عن ابی سعید الخدری، ج 2، ص 13، مؤسسة علوم القرآن، بیروت) ☆ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب النکاح، باب دخوله المسجد جنبا، ج 7، ص 66، دارصادر، بیروت)

## یہی اجازت ازواج مطہرات اور بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ

### عنہن کو بھی عطا فردی

**حدیث:** ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ألا إن ہذا المسجدا لا یحلُّ لجنبہ ولا لحائضٍ إلا للنبیؐ وأزواجہ وفاطمۃ بنت محمدؐ وعلیؑ ألا بینت لکم أن تَضِلُّوا)) سن لو یہ مسجد کسی جناب کو حلال نہیں ہے نہ کسی حائض کو، مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی ازواج مطہرات و حضرت بتول زہرا اور مولا علیؑ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے صاف بیان فرما دیا کہ کہیں بہک نہ جاؤ۔

(المعجم الکبیر، عن ام سلمة رضی اللہ عنہا، ج 23، ص 374، المكتبة الفیصلیة، بیروت) ☆ (السنن الکبریٰ، کتاب النکاح، باب دخوله المسجد جنبا، ج 7، ص 65، دارصادر، بیروت) ☆ (تاریخ دمشق الکبیر، ترجمہ علی ابن ابی طالب، ج 45، ص 108، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

## سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت

**حدیث:** امام احمد مسند میں فرماتے ہیں ((حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخْتَمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يُقْسِمُهَا سَبِيٌّ وَخُرْتُ قَالَ: فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَفَّضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَرَاءٍ، فَجِئْتَهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُو عِيٍّ ثُمَّ قَالَ: خُذِ الْبُسُّ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟)) ترجمہ: محمد بن مالک نے کہا میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا لوگ ان سے کہتے تھے آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے حضور کے سامنے اموال غنیمت غلام و متاع حاضر تھے حضور تقسیم فرما رہے تھے سب اونٹ بانٹ چکے یہ انگوٹھی باقی رہ گئی حضور نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحاب کرام کو دیکھا پھر نگاہ نیچی کر لی پھر نظر اٹھا کر ملاحظہ فرمایا پھر نگاہ نیچی کر لی پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلایا اے براء! میں حاضر ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی، پھر فرمایا: پہن لے جو کچھ تجھے اللہ و رسول پہناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب فرمایا کرتے تھے: تم مجھے کیسے حکم دیتے ہو کہ میں اس انگوٹھی کو اتار دوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: پہن لے جو کچھ تجھے اللہ و رسول



پہناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 4، ص 394، المکتب الاسلامی، بیروت)

ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح ابوالحق اسفرائنی سے روایت کی، فرماتے ہیں ((رَأَيْتُ عَلِيَّ الْبَرَاءِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ)) ترجمہ: میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب اللباس الخ، ج 5، ص 195، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حالانکہ یہی براء بن عازب رضی اللہ عنہ ممانعت کی روایت نقل کرتے ہیں، چنانچہ صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ((نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ)) ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب خواتیم الذهب الخ، ج 2، ص 871، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب الخ، ج 2، ص 188، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

## سراقہ بن مالک کو کنگن پہننے کی اجازت

**حدیث:** امام بیہقی کی دلائل النبوة میں بطریق الحسن مروی، سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ((کیف بک اذا لبست سواری کسری)) ترجمہ: وہ وقت تیرا کیسا وقت ہوگا جب تجھے کسری بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں ایران فتح ہوا اور کسری کے کنگن، کمر بند، تاج خدمت فاروقی میں حاضر کئے گئے تو امیر المومنین نے انہیں پہنائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ((اللہ اکبر الحمد لله الذی سلہما

کسری بن هرمز والبسهما سراقة الاعرابی) ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے سب خوبیاں اللہ کو جس نے یہ کنگن کسری بن هرمز سے چھینے اور سراقة دہقانی کو پہنائے۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب قول الله عزوجل وعد الله الذين آمنوا الخ، ج 6، ص 325، 326، دارالكتب العلمية، بيروت)

قال العلامة الزرقاني ليس في هذا استعمال الذهب وهو حرام لانه، انما فعله تحقيقا لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يقرهما فانه روى انه امره فنزعهما وجعلهما في الغنيمة ومثل هذا لا يعد استعمالاً۔ ترجمہ: علامہ زرقانی نے فرمایا اس سے سونے کو استعمال کرنا لازم نہیں آیا حالانکہ وہ حرام ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ کی تحقیق کے لئے تھا، اس فعل کو برقرار نہیں رکھا۔ مروی ہے کہ آپ نے سراقة کو حکم دیا انہوں نے وہ کنگن اتار دیئے اور آپ نے انہیں مال غنیمت میں شامل فرمادیا اور اس کو استعمال شمار نہیں کیا جاتا۔

(شرح الزرقاني على المواهب، المقصد الثامن، الفصل الثالث، ج 7، ص 208، دارالمعرفة، بيروت)

**حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو اجازت عطا فرمائی کہ**

**اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھیں**

**حدیث:** مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ وُلْدَ لِي بَعْدَكَ أُسْمِيهِ بِأَسْمِكَ، وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ)) ترجمہ: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! حضور کے بعد اگر میرے کوئی لڑکا پیدا ہوا تو میں حضور کا نام پاک اس کا نام رکھوں اور حضور کی کنیت اس کی کنیت، فرمایا: ہاں۔

محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((كَانَتْ رُحْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: یہ مولیٰ علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

رخصت تھی۔

(کتاب الادب، باب ماجاء فی کراهیة الجمع بین الاسم النبوی وکنیہ، ج 4، ص 384، دارالفکر، بیروت) ☆ (المستدرک للحاکم، کتاب الادب، قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، ج 4، ص 278، دارالفکر، بیروت) ☆ (السنن الکبریٰ، کتاب 1 بیروت) ☆ (شرح سعانی الآثار، کتاب الکراهیة، باب التکنی بابی القاسم الخ، ج 2، ص 432، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند ابویعلیٰ، عن علی رضی اللہ عنہ، ج 1، ص 184، مؤسسة علوم القرآن، بیروت) ☆ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ومن هذه الطبقة ممن روى عن عثمان وعلی الخ، ج 5، ص 91، 92، دارصادر، بیروت)

**فائدہ:** اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ اجازت اس وقت تھی جب باقیوں کے لئے ابوالقاسم کنیت رکھنا منع تھا، بعد میں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب مطلق سب کے لئے اجازت ہے۔

## غیر حاضری کے باوجود مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا

**حدیث:** عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زوجہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں شاہزادی کی تیمارداری کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا ((إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ)) ترجمہ: بے شک تمہارے لئے حاضران بدر کے برابر ثواب اور حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مناقب عثمان، ج 1، ص 523، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب عثمان بن عفان، ج 5، ص 395، دارالفکر، بیروت) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 101، المکتب الاسلامی، بیروت)



یہ خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمادی حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔ سنن ابوداؤد میں انہیں سے ہے ((فَضْرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمْ يَضْرِبُ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر فرمایا اور ان کے سوا کسی غیر حاضر کو حصہ نہ دیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، ج 2، ص 18، آفتاب عالم پریس، لاہور)

## حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رخصت

**حدیث:** حضرت عبید بن صخر سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر صوبہ دار بنا کر بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا: ((وَقَدْ طَيَّبْتُ لَكَ الْهَدِيَّةَ، فَإِنْ أَهَدَى لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ)) ترجمہ: میں نے تمہارے لئے رعایا کے ہدایا طیب کر دئے اگر کوئی چیز تمہیں ہدیہ دی جائے قبول کر لو۔

(الاصابة في تمييز الصحابة بحواله سيف في الفتوح، ترجمه معاذ بن جبل، ج 6، ص 107، دارالكتب العلميه، بيروت)

اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں: ((فَرَجَعَ حِينَ رَجَعَ بِثَلَاثِينَ رَأْسًا أَهْدَيْتَ لَهُ)) ترجمہ: جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تیس غلام لائے کہ انہیں ہدیہ دیے گئے۔

(الاصابة في تمييز الصحابة، ترجمه معاذ بن جبل، ج 6، ص 107، دارالكتب العلميه، بيروت)

حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((هَدَايَا الْعَمَالِ حَرَامٌ كُلُّهَا)) ترجمہ: عاملوں کے سب ہدیے حرام ہیں۔

(کنز العمال، ج 6، ص 112، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ)) ترجمہ: عاملوں کے سب ہدیے خیانت ہیں۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی حمید الساعدی، ج 39، ص 14، مؤسسة الرسالة، بيروت)

## حضرت حبان بن منقذ کو خاص رخصت

**حدیث:** صحیحین میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ایک شخص

(یعنی حبان بن منقذ بن عمرو انصاری یا ان کے والد منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں فریب کھا جاتا ہوں (یعنی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں) فرمایا ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ - زاد الحمیدی فی مسندہ ثم انت بالخيار ثلثا)) ترجمہ: جب خریداری کرو کہہ دیا کرو: فریب نہیں۔ حمیدی نے اپنی مسند میں اتنا اضافہ کیا: پھر تمہیں تین دن تک اختیار ہے (اگر ناموافق پاؤ بیچ رو کر دو)۔

(صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب ما یکرہ الخداع فی البیع، ج 1، ص 284، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب فی الاستقراض، باب ما ینہی عن اضعاء المال، ج 1، ص 324، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، فی الخصومات، باب من رد امر السفیہ والضعیف العقل، ج 1، ص 325، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب من یخدع فی البیع، ج 2، ص 7، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (کنز العمال، عن عبد اللہ بن عمر، ج 4، ص 155، مؤسسة الرسالہ، بیروت) ☆ (المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، ج 7، ص 305، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام نووی رحمہ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں "وَ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي

هَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَاصًّا فِي حَقِّهِ وَأَنَّ الْمَغَابَنَةَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ لَازِمَةٌ لِأَخْيَارِ الْمَغْبُورِينَ بِسَبَبِهَا سَوَاءٌ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَآخِرِينَ وَهِيَ أَصْحُ الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ" ترجمہ: علماء کا اس حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، بعض نے ان صحابی کے حق میں خاص مانا ہے، (ان کا موقف یہ ہے کہ) غبن کے باوجود عقد بیع بائع اور مشتری کے درمیان لازم ہو جاتا ہے، غبن کھانے والے کو غبن کے سبب خیال نہیں ملتا چاہے کم غبن ہو یا زیادہ

یہ امام شافعی، امام اعظم ابوحنیفہ اور اس کے علاوہ ائمہ کا موقف ہے اور امام مالک سے صحیح روایت کے مطابق یہی ہے۔

(شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب من یخدع فی البیع، ج 2، ص 7، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

یعنی امام ابوحنیفہ و امام شافعی اور روایت صحیح میں امام مالک وغیرہم آئمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک غبن (دھوکہ) باعث خیار نہیں کتنا ہی غبن کھائے بیع کو رد نہیں کر سکتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کو نوازا تھا، اوروں کے لیے نہیں، یہی قول صحیح ہے۔

### عصر کے بعد دو رکعت کی رخصت

**حدیث:** ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عصر کے بعد دو

رکعتیں پڑھا کرتیں ((رواہ الشیخان عن کریب عن ابن عباس و عبدالرحمن بن ازهر و المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہم ارسلوه الی عائشہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اقرء علیہا السلام منا جمیعا و سلھا عن الرکعتین بعد العصر و قل لها بلغنا انک تصلینہما وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عنہما)) ترجمہ: اس کو بخاری و مسلم نے بحوالہ کریب حضرت ابن عباس بن عبدالرحمن بن ازهر اور مسور بن مخرمة رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا، ان تینوں نے کریب کو ام المؤمنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارا سلام کہیں اور ان سے نماز عصر کے بعد والی دو رکعتوں کے بارے میں پوچھو اور ان سے عرض کرو کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ وہ پڑھتی ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب اذا کلم وهو یصلی الخ، ج 1، ص 164، 165، قدیمی کتب



خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرین، باب الاوقات ان انہی عن الصلوة، ج 1، ص 277، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (مشکوٰۃ المسابیح بحوالہ متفق علیہ، کتاب الصلوة، باب اوقات النہی، ص 94، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حالانکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز سے ممانعت

فرمائی۔ فیہ عن عمرو عن ابی ہریرۃ وعن ابی سعیدنا الخدری کلہا فی الصحیحین و عن معاویۃ فی صحیح البخاری و عن عمرو بن عنبسة فی صحیح مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ترجمہ: اس بارے میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے صحیحین میں مروی ہے اور حضرت معاویہ سے صحیح بخاری میں اور حضرت عمرو بن عنبسة سے صحیح مسلم میں مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حضرت امیر معاویہ والی روایت کے الفاظ یہ ہیں ((وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْزِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ)) ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتوں سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب موافیت الصلوة، باب الصلوة بعد الفجر، ج 1، ص 82، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب موافیت الصلوة، باب لا تتحرى الصلوة قبل غروب الشمس، ج 1، ص 82، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب موافیت الصلوة، باب من يكره الصلوة الا بعد العصر والفجر، ج 1، ص 83، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرین، باب الاوقات التي نہی عن الصلوة، ج 1، ص 275، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب المسافرین، باب الاوقات التي نہی عن الصلوة، ج 1، ص 276، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

خود ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس ممانعت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الصلوة، باب الصلوة بعد العصر، ج 1، ص 181، آفتاب عالم پریس، لاہور)

علماء فرماتے ہیں یہ ام المومنین کی خصوصیت تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ان کیلئے جائز کر دیا تھا۔ جیسا کہ امام جلیل خاتم الحفاظ سیوطی علیہ الرحمۃ ”انموذج اللیب“ میں فرماتے ہیں ”ویخص من شاء بما شاء من الأحکام کجعلہ شهادة خزيمة بشهادة رجلین ولعائشة فی صلاة رکعتین بعد العصر“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہیں جس حکم سے خاص فرمائیں، جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دو مردوں کے برابر فرمادی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عصر کے بعد دو رکعتوں کی اجازت عطا فرمائی۔

(انموذج اللیب، الفصل الرابع، ج 1، ص 201 تا 207، وزارة الاعلام، جدہ)

## حج میں خاص شرط کی اجازت

**حدیث:** حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ضباعہ بنت

زبیر بن عبدالمطلب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: حج کا ارادہ ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ! واللہ میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں (یعنی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان ادا نہ کر سکوں پھر احرام سے کیونکر باہر آؤں گی)۔ فرمایا ((حُجِّی وَأَشْتَرِطِی، وَقُولِی: اللَّهُمَّ مَجِّئِی حَيْثُ حَبَسْتِنِی)) ترجمہ: حج کرو (حج کا احرام باندھ لو) اور نیت میں یہ شرط لگا لو کہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روکے گا وہیں میں احرام سے باہر ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین، ج 2، ص 762، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب اشتراط المحرم التحلل، ج 1، ص 385، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ج 6، ص 202، المكتبة الاسلامی، بیروت) ☆ (سنن النسائی، کتاب مناسک الحج، الاشتراط فی الحج، ج 2، ص 19، نور محمد کارخانہ، کراچی) ☆ (سنن الترمذی، کتاب الحج، ج 2، ص 278، دارالفکر، بیروت) ☆ (سنن ابی داود، کتاب المناسک، باب الاشتراط فی الحج، ج 1، ص 247، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (سنن ابن ماجہ، ابواب المناسک، باب الشرط فی الحج، ص 217، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (صحیح ابن خزیمہ، کتاب المناسک، باب اشتراط من به علة الخ، ج 4، ص 164،

المکتب الاسلامی، بیروت) ☆ (السنن الكبرى، کتاب الحج، باب استثناء فی الحج، ج 5، ص 221، 222، دارصادر، بیروت) ☆ (کنز العمال، ج 5، ص 122، مؤسسة الرسالہ، بیروت) ☆ (المعجم الكبير، عن اسماء بنت ابی بکر، ج 24، ص 87، المكتبة الفیصلیة، بیروت) ☆ (مجمع الزوائد بحوالہ ابن عمر، کتاب الحج، باب الاشتراط فی الحج، ج 3، ص 218، دارالکتب بیروت)

ہمارے آئمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: یہ ایک اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمادی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں۔ بل وافقنا علی اختصاصہ بہا بعض الشافیة كالخطابی ثم الرویانی کما فی عمدة القاری للامام العینی من باب الاحصار۔ ترجمہ: بلکہ اس حکم کے اس صحابیہ کے ساتھ مختص ہونے پر بعض شواہد بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، مثلاً خطابی پھر رویانی جیسا کہ عمدة القاری نے باب الاحصار میں امام عینی نے ذکر فرمایا۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، باب الاحصار فی الحج، ج 10، ص 208، دارالکتب العلمیة، بیروت)

## دوسرا نکاح منع فرمادیا

**حدیث:** مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا)) ترجمہ: میں نے رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا، پھر (کہہ دوں کہ) اجازت نہیں دیتا، پھر (بتا دوں کہ) اجازت نہیں دیتا، ہاں



اگر علی ابن طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے اور جو بات اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔

(ابوداؤد، باب ما یکرہ ان یجمع بینہن من النساء، ج 2، ص 226، المكتبة العصرية، بیروت)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت اس طرح ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں ((إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشْهَدُ، يَقُولُ: أَمَا بَعْدَ أَنْ كَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ هَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ))

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی: (یا رسول اللہ) آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لئے غضب ناک نہیں ہوتے، یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں نے سنا کہ آپ نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا: اما بعد میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا تو اس نے مجھ سے جو بات کی اسے سچ کر دکھایا، اور بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی اسے غمگین کرے، اللہ کی قسم نبی اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی کبھی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا اردہ ترک کر دیا۔

(صحیح بخاری، ج 5، ص 22، دار طوق النجاة) ☆ (صحیح مسلم، ج 4، ص 1903، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

**فائدہ:** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسرے نکاح سے منع فرمادیا حالانکہ قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو استطاعت کی صورت میں بیک وقت چار نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ (ب 4، سورۃ النساء، آیت 3)

## سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے

**حدیث:** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ)) ترجمہ: مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دیئے جائیں سوائے ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دروازے کے۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، ج 1، ص 516، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

## فصل ثانی:

اس فصل میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے۔

### اگر کوئی مانگنے والا مانگتا تو

**حدیث:** حضرت ذوالشہادتین خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَيَّ مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خُمْسًا)) ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسح موزہ کی مدت تین دن رات مقرر فرمائی، اور اگر مانگنے والا مانگتا رہتا تو ضرور حضور پانچ راتیں کر دیتے۔

(سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی التوفیق فی المسح للمقیم والمسافر، ص 42، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

اور روایت ابی داؤد اور ایک روایت معانی الآثار ابی جعفر اور ایک روایت بیہقی میں ہے: فرمایا ((وَلَوْ اسْتَزَدْنَا لَزَادْنَا)) ترجمہ: اور اگر ہم حضور سے زیادہ مانگتے تو حضور مدت اور بڑھا دیتے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب التوفیق فی المسح، ج 1، ص 21، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (شرح معانی الآثار، کتاب الطہار، باب المسح علی الخفین الخ، ج 1، ص 61، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الطہارۃ، باب ماورد فی ترک التوفیق، ج 1، ص 277، دار صادر، بیروت)

### گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف فرمادی

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا)) رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی عن امیر المؤمنین المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند



صحیح۔ ترجمہ: گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تو میں نے معاف کر دی، روپوں کی زکوٰۃ دو ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔

(مسند احمد بن حنبل، عن علی رضی اللہ عنہ، ج 1، ص 92، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆ (سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ السائمة، ج 1، ص 221، آفتاب عالم پریس لاہور) ☆ (سنن الترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ماجاء فی زکوٰۃ الذہب الخ، ج 2، ص 123، دار الفکر، بیروت)

**فائدہ:** سواری کے گھوڑوں، خدمت کے غلاموں میں زکوٰۃ جو واجب نہ ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یہ میں نے معاف فرمادی ہے، ہاں کیوں نہ ہو کہ حکم روف و رحیم کے ہاتھ میں ہے بحکم رب العالمین جن جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## یتیم اور عورت کی حق تلفی کو حرام فرمایا

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنِّي أُحَرِّجُ (أُحَرِّمُ) حَقَّ الضَّعِيفِينَ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)) ترجمہ: میں تم پر حرام کرتا ہوں دو کمزوروں کی حق تلفی، یتیم اور عورت۔

(سنن ابن ماجہ، ج 2، ص 1213، دار احیاء الکتب العربی، حلب) ☆ (المستدرک للحاکم، کتاب الایمان ابی اخرج علیکم حق الضعیفین، ج 1، ص 63، دار الفکر، بیروت) ☆ (کنز العمال، عن ابی ہریرہ، ج 3، ص 171، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

شعب الایمان میں الفاظ یہ ہیں: ((أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ مَالَ الضَّعِيفِينَ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)) ترجمہ: میں تم پر حرام کرتا ہوں دو کمزوروں کا مال تلف کرنا، یتیم اور عورت۔ (شعب الایمان، فصل فی کراہیۃ طلب الامارۃ الخ، ج 9، ص 530، مکتبۃ الرشید، ریاض)

## شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کا بیچنا حرام فرمایا

**حدیث:** صحیحین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے انہوں

نے سال فتح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  
بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)) بیشک اللہ اور اس کے رسول نے حرام  
کر دیا شراب اور مردار اور سوز اور بتوں کا بیچنا۔

(صحیح البخاری، کتاب البيوع باب بيع الميتة والاصنام، ج 1، ص 298، قدیمی کتب خانہ،  
کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم الخمر والمية الخ، ج 2، ص 23، قدیمی کتب  
خانہ، کراچی)

## زنا کو حرام فرمادیا

**حدیث:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
سے فرمایا ((مَا تَقُولُونَ فِي الزَّانَا؟) "قَالُوا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) احمد بسند صحیح والطبرانی فی الاوسط والكبير عن  
المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ: زنا کو کیسا سمجھتے ہو؟ عرض  
کی: حرام ہے، اسے اللہ ورسول نے حرام کر دیا تو وہ قیامت تک حرام ہے۔ احمد نے  
بسند صحیح اور طبرانی نے اوسط اور کبیر میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

(مسند احمد بن حنبل، بقیہ حدیث مقداد بن اسود، ج 6، ص 8، المكتبة الاسلامی، بیروت) ☆  
(المعجم الكبير، عن مقداد بن اسود، ج 20، ص 256، المكتبة الفيصلية، بیروت)

## مدینہ منورہ کو حرم بنایا

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی: ((اللَّهُمَّ إِنَّ  
إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا)) ترجمہ: الہی! بیشک ابراہیم  
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور میں دونوں سنگستان مدینہ طیبہ کے درمیان  
جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب الانبياء، باب يزفون النسلان، ج 1، ص 477، قدیمی کتب خانہ،  
کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب المغازی، غزوة احد، ج 2، ص 585، قدیمی کتب خانہ،

کراچی) ☆ (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 1090، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدينة، ج 1، ص 441، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن انس رضی اللہ عنہ، ج 3، ص 149، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆ (شرح المعانی الآثار، کتاب الصيد، باب صید المدينة، ج 2، ص 342، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

## حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ

**حدیث:** صحیحین میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ((حَرَّمَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حَرَمًا)) تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا اور اس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

(صحیح البخاری، فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ج 1، ص 251، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدينة، ج 1، ص 442، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 487، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆ (المصنف لعبد الرزاق، کتاب حرمة المدينة، ج 9، ص 260، 261، المجلس العلمی، بیروت)

## پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھنے پر اذخر

### گھاس کا حرم سے استثناء فرمادیا

**حدیث:** صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے:

((فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ لِمَا غَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ)) ترجمہ: عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! مگر اذخر کہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے، فرمایا: مگر اذخر۔

(صحیح بخاری، کتاب العمرة، باب باب لا ینفر صید الحرم، ج 1، ص 247، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب تحریم مکة الخ، ج 1، ص 438، 439، قدیمی کتب



(خانہ، کراچی)

امام عارف باللہ سید عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”کان الحق تعالیٰ جعل له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يشرع من قبل نفسه ما يشاء كما في حديث تحريم شجر مكة فان عمه العباس رضي الله تعالى عنه لما قال له يا رسول الله الا الاذخر فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا الاذخر ولو ان الله تعالى لم يجعل له ان يشرع من قبل نفسه لم يتجرأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يستثنى شيئاً مما حرّمه الله تعالى“ ترجمہ: اللہ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا کہ شریعت میں جو حکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کے نباتات کو حرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کاٹنے سے ممانعت فرمائی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! گیاه اذخر کو اس حکم سے نکال دیجئے۔ فرمایا: اچھا نکال دی، اس کا کاٹنا جائز کر دیا۔ اگر اللہ سبحانہ نے حضور کو یہ رتبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مقرر فرمائیں تو حضور ہرگز جرأت نہ فرماتے کہ جو چیز خدا نے حرام کی اس میں سے کچھ مستثنیٰ فرمادیں۔

(میزان الشريعة الكبرى، فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ، ج 1، ص 60،

دارالکتب العلمیة، بیروت)

## رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیع کو حرم بنا دیا

**حدیث:** صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْبَقِيعَ وَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)) بیشک رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیع کو حرم بنا دیا اور فرمایا: چراگاہ کو کوئی اپنی حمایت میں نہیں لے

سکتا سوا اللہ ورسول کے۔ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(شرح معانی الآثار، باب احياء الارض الميتة، ج 2، ص 175، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

## وضو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض فرمایا

**حدیث:** حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السُّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ)) ترجمہ: مشقت امت کا لحاظ نہ ہو تو میں ہر نماز کے وقت مسواک ان پر فرض کر دوں جس طرح میں نے وضو ان پر فرض کر دیا ہے۔

(کنز العمال، عن ابن عباس، ج 9، ص 312، مؤسسة الرسالة، بیروت) ☆ (المستدرک للحاکم، کتاب الطہارۃ، لولان اشق علی امتی، ج 1، ص 146، دارالفکر، بیروت) ☆ (البحر الزخار، عن ابن عباس، ج 4، ص 130، مكتبة العلوم والحکم، مدینة المنورة) ☆ (مجمع الزوائد، کتاب الطہارۃ، باب فی السواک، ج 1، ص 221، دارالکتاب، بیروت) ☆ (مجمع الزوائد، کتاب الصلوۃ، باب ماجاء فی السواک، ج 2، ص 97، دارالکتاب، بیروت)

**فائدہ:** یہاں وضو کے فرض کرنے کی اضافت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے اپنی طرف فرمائی۔

## فصل ثالث:

اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ حکم کی تبدیلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف تھی، مگر حکم تبدیل نہ فرمایا۔

### ہاں فرما دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا

**حدیث:** امیر المؤمنین علیؑ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ جب یہ

آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔

(ب4، سورہ آل عمران، آیت 97)

تو صحابہ کرام علیہم الرضوانہ نے عرض کیا: ((يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اَفِي كُلِّ

عَامٍ؟)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟، رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوانہ نے (پھر) عرض کیا: ((يَا

رَسُولَ اللّٰهِ، اَفِي كُلِّ عَامٍ؟)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال حج

فرض ہے؟، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا، وَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، لَوْ جَبَتْ

((ترجمہ: حج ہر سال فرض نہیں اور میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے۔

(سنن الترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء کم فرض الحج، ج 2، ص 220، دارالفکر، بیروت) ☆ (سنن

الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المائدة، ج 5، ص 40، دارالفکر، بیروت) ☆ (سنن ابن

ماجہ، ابواب المناسک، باب فرض الحج، ص 213، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند احمد

بن حنبل، عن علی رضی اللہ عنہ، ج 1، ص 113، المكتبة الاسلامی، بیروت)

### نماز عشاء کو مؤخر نہ فرمایا

**حدیث:** ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد و سنن ابی داؤد و ابن

ماجہ وغیرہا میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((وَلَوْ لَا ضَعُفُ



الضَّعِيفِ وَسَقَمِ السَّقِيمِ وَحَاجَةِ ذِي الْحَاجَةِ لِأَخْرَتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ)) ترجمہ: اگر کمزور کی ناتوانی اور بیمار کے مرض اور کامی کے کام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک موخر فرما دیتا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت العشاء، ج 1، ص 61، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت العشاء، ص 50، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی سعید الخدری، ج 3، ص 5، المكتب الاسلامی، بیروت)

## ہر وضو کے وقت مسواک کو فرض فرما دیتے اگر چاہتے

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)) اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرما دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں۔

(صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب السواک يوم الجمعة، ج 1، ص 122، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب السواک، ج 1، ص 128، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (سنن النسائی، کتاب الطہارۃ الرخصة فی السواک، ج 1، ص 6، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی) ☆ (سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب السواک، ص 25، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرۃ، ج 2، ص 245، 250، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆ (مؤطا امام مالک، کتاب الطہارۃ، ماجاء فی السواک، ص 50، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

## ہر نماز کے وقت

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) ترجمہ: اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرما دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، من اسمہ محمد، ج 7، ص 253، دار الحرمین، القاہرہ) ☆ (المعجم الکبیر

للطبرانی، عن زید بن خالد، ج 5، ص 243، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

## ہر نماز کے وقت تازہ وضو فرض فرمادیتے اگر چاہتے

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتَهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ)) ترجمہ: امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہو تو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں۔

(سنن نسائی، ج 1، ص 6، نور محمد کتب خانہ، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 259، المکتب الاسلامی، بیروت)

**فائدہ:** اگر پہلے سے وضو ہے تو ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا فرض نہیں، ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں۔

## ہر نماز کے وقت خوشبو لگانا فرض فرمادیتے اگر چاہتے

**حدیث:** رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسُّوَاكِ وَالطَّيْبِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) ابو نعیم فی کتاب السواک عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن وسعید بن منصور فی سننہ عن مکحول مرسلًا۔ ترجمہ: مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا اور خوشبو لگانا فرض کر دوں۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے کتاب السواک میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسن اور سعید بن منصور

نے اپنی سنن میں مکحول سے مرسلًا روایت کیا۔

(کنز العمال، السواک، ج 9، ص 316، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

## رات کے آخری حصے میں دو رکعتیں فرض فرمادیتے اگر چاہتے

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((رکعتان

یرکعهما ابن آدم خوف اللیل الاخیر، خیر له من الدنیا وما فیہا، ولولا ان  
اشق علی امتی لفرضتہما علیہم۔ وأبو نصر عن حسان بن عطیة مرسلًا  
الدیلمی عن ابن عمر)) ترجمہ: وہ دو رکعتیں جو ابن آدم رات کے آخری حصے میں  
ادا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہیں، اور اگر مجھے  
اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ دو رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ یہ روایت  
ابو نصر نے حسان بن عطیہ سے مرسلًا روایت کی ہے اور دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی  
اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔

(کنز العمال، الفصل الثانی فی السنن والنوافل الراقبہ، ج 7، ص 792، مؤسسة الرسالہ، بیروت)



# الباب الثانی اختیارات تکوینیہ

## اختیارات تکوینیہ

اختیارات تکوینیہ سے مراد مردوں کو زندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، مصیبت دور کر دینا، نعمت و دولت عطا کرنا، فتح دینا وغیرہ وغیرہ۔

## چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا

**حدیث:** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ((انَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا)) ترجمہ: مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔

(بخاری، باب انشقاق القمر، ج 5، ص 49، دارطوق النجاء)

بخاری میں ایک دوسرے مقام پر ہے ((انَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ)) ترجمہ: اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔

(بخاری، ج 4، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر، ص 206، دارطوق النجاء)

سورج اٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک

اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

## اشارہ جدھر چاند ادھر

**حدیث:** سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما عم مکرم سید اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سے عرض کی: مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزے کا دیکھنا ہوا، ((رَأَيْتَكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ فَحَيْثُ أَشْرَتْ إِلَيْهِ مَالٌ)) ترجمہ: میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((إِنِّي كُنْتُ أَحَدَثُهُ وَيُحَدِّثُنِي وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، وَأَسْمَعُ وَجِبْتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ)) ترجمہ: ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا وہما کہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ البيهقي والصابوني وغيره، باب مناغاة للقمر، ج 1، ص 53، مركز اہلسنت، گجرات الہند ☆ دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في حفظ الله تعالى، ج 2، ص 41، دارالكتب العلمية، بيروت ☆ البداية والنهاية، باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 326، داراحياء التراث العربي، بيروت ☆ كنز العمال، ج 11، ص 383، مؤسسة الرسالة، بيروت)

چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں

کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث کو فتاویٰ رضویہ میں نقل کر کے فرماتے ہیں ”جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافت الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے آفتاب و ماہتاب در کنار، واللہ العظیم، ملکہ مدبرات الامر کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً)) میں تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بھیجا گیا۔

(صحیح مسلم، ج 1، ص 199، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

قرآن فرماتا ہے ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ترجمہ: برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر کہ

تمام اہل عالم کو ڈرسانے والا ہو۔ (ب18، سورۃ الفرقان، آیت 1)

اہل عالم میں جمیع ملائکہ بھی داخل ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی

﴿تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ترجمہ: یہاں تک کہ سورج پردے میں جا چھپا۔

(ب23، سورۃ ص، آیت 32)

فرمایا ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ ترجمہ: پلٹا لاؤ میری طرف۔

(ب23، سورۃ ص، آیت 33)

امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (الکریج) سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں

مروی ہے کہ سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے اور

خطاب ان ملائکہ سے ہے جو آفتاب پر متعین ہیں یعنی نبی اللہ سلیمان نے ان فرشتوں

کو حکم دیا کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لے آؤ، وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں

تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز

ادا فرمائی۔ (معالم التنزیل، ج4، ص52، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام (نائبان) بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام

(النجیۃ) سے ایک جلیل القدر نائب ہیں پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(فتاویٰ رضویہ، ج30، ص486، 487، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وسلم۔

ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو

مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں



## سورج روک دیا

**حدیث:** طبرانی معجم اوسط میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں (( اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَّحَ اَمْرَ الشَّمْسِ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ )) ترجمہ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہ۔ وہ فوراً ٹھہر گیا۔

(المعجم الاوسط، ج 5، ص 33، مكتبة المعارف، رياض) ☆ (مجمع الزوائد، كتاب علامات نبوت، باب حبس الشمس صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 8، ص 296، دار الكتاب، بيروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں ”اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے (جو کہ اگلے صفحہ پر آ رہا ہے) جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر خدمت گزاروں کی محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی، امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی، الحمد للہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان کا حکم جاری ہے تمام مخلوق الہی کو ان کیلئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے، وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے گہوارہ میں چاند ان کی غلامی بجالاتا، جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 485، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

## سورج پلٹا دیا

**حدیث:** خصائص کبریٰ میں مروی ہے ((أَخْرَجَ ابْنُ مَسْدَةَ وَابْنُ

شاہین والطبرانی بأسانید بعضها على شرط الصحيح عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت وفي لفظ للطبرانی فطلعت عليه الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض وقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء)) ترجمہ: ابن مندہ، ابن شاہین اور طبرانی نے ایسی اسناد کے ساتھ جن میں سے بعض صحیح بخاری کی شرط پر ہیں روایت کیا ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نمازِ عصر نہ پڑھی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! بے شک یہ تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری میں تھا، لہذا سورج کو لوٹا دے، اسماء کہتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا پھر دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔

اور طبرانی کے الفاظ یوں ہیں: آپ پر سورج طلوع ہوا یہاں تک کہ سورج پہاڑ اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا حضرت علی کھڑے ہوئے وضو کیا اور نمازِ عصر ادا کی پھر سورج ڈوب گیا۔ یہ مقام صہباء کا واقعہ ہے۔

(خصائص کبریٰ، ج 2، ص 137، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا  
گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لئے

## اس حدیث پاک کے دیگر حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(شرح مشکل الآثار للطحاوی، باب مشکل ماروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الخ، ج 3، ص 92، مؤسسة الرسالة، بیروت ☆ المعجم الكبير للطبرانی، ام جعفر بن محمد بن جعفر بن ابی طالب، ج 24، ص 144، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ ☆ مواہب اللدنیہ، القسم الثالث، ج 2، ص 258، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ ☆ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، الفصل الثانی عشر، ج 1، ص 548، دار الفیحاء، عمان ☆ شرح الشفاء لملا علی قاری، ج 1، ص 594، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ سیرت حلیہ، باب ذکر الاسراء والمعراج، ج 1، ص 543، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، باب رد الشمس له صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 485، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ المقاصد الحسنیة، کتاب الفضائل، ج 1، ص 771، دار الکتب العربی، بیروت ☆ رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 360، دار الفکر، بیروت ☆ تفسیر روح البیان، سورۃ الاسراء، ج 5، ص 128، دار الفکر، بیروت ☆ تفسیر روح المعانی، سورۃ ص، ج 12، ص 186، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر خازن اور شرح النووی علی المسلم میں مروی ہے (( اَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَسَتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَوْمَ الْخُنْدُقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ذَكَرَ ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ رَوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَالثَّانِيَةُ صَبِيحَةَ الْبُسْرَاءِ حِينَ انْتَضَرَ الْعِيرَ الَّتِي أَخْبَرَ بِوُصُولِهَا مَعَ شُرُوقِ الشَّمْسِ ذَكَرَهُ يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ فِي زِيَادَتِهِ عَلَى سِيرَةِ بَنِ إِسْحَاقَ )) ترجمہ: بے شک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو مرتبہ سورج روکا گیا، ایک مرتبہ غزوہ خندق میں جب تمام مسلمان نماز عصر نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈوبا ہوا سورج لوٹا دیا یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

اور دوسری مرتبہ شب معراج کی صبح قافلے کے انتظار میں، جب آپ نے سورج نکلنے کے وقت قافلہ پہنچنے کی خبر دی۔ اس کو یونس بن بکیر نے اپنی زیادات

میں سیرہ بن اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(تفسیر خازن، ج 2، ص 31، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ (شرح نوووی علی صحیح

مسلم، ج 12، ص 52، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

تیری مرضی پا گیا سورج پھر اٹنے کے قدم

تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا

### بادلوں پر حکومت

**حدیث:** انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں

((أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاءَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِينَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَنَحْنُ يَدِيهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، قَالَ: فَتَارَ سَحَابٌ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ

يَنْزِلْ عَنْ مَنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قَالَ: فَمَطَرْنَا يَوْمَئِذٍ

ذَلِكَ، وَفِي الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى، فَقَامَ ذَلِكَ

الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهْدَمُ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ

اللَّهُ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ يَدِيهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

قَالَ: فَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ يَشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا

تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجُوبَةِ حَتَّى سَأَلَ الْوَادِي، وَادِي قَنَاةَ

شَهْرًا، قَالَ: فَلَمْ يَجْءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ)) ترجمہ: ایک بار سرکارِ صلی

اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں میں قحط پڑ گیا، سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر

خطبہ دے رہے تھے تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم مال ہلاک ہو گیا اور اہل و عیال بھوک کا شکار ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لئے اللہ



سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم پر بارش برسائے، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، پھر پہاڑوں کی مانند بادل نمودار ہوئے اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے بہ رہے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ پھر اس دن، اس سے اگلے دن اور اس کے بعد جمعہ تک بارش ہوتی رہی، پھر وہی اعرابی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ مکانات گر گئے، مال تباہ ہو گیا لہذا آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی: اے اللہ! اس (بارش) کو ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد برسا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف جدھر بھی اشارہ کیا وہاں سے بادل ہٹ گئے، یہاں تک کہ مدینہ خالی میدان کی طرح ہو گیا اور ارد گرد وادیوں پر بارش ہوتی رہی، راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں جو بھی دیہات سے ہمارے پاس آتا تو وہ بارش کے بارے میں بتاتا (یعنی یہ بتاتا کہ مدینہ کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے)۔

(صحیح بخاری، باب تمطر فی المطر حتی يتخادر الخ، ج 2، ص 32، دار طوق النجاة ☆ صحیح مسلم، ج 2، ص 614، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جن کو سونے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے

صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے

### بارش پر حکومت

**حدیث:** حدیث پاک ہے (( عن مالک قال أصاب الناس قحطٌ

فی زمن عمر، فجاء رجلٌ إلى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ،

استسقِ لأمّتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجلُ فی المنامِ فقيل له: أنتِ عمرُ

فَأَقْرَهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرَهُ أَنْكُمْ مُسْتَقِيمُونَ)) ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، المہندیہ)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قرۃ العینین“ میں نقل کیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ دمشق“ میں نقل کیا، علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب فی معرفۃ الأصحاب“ میں نقل کیا اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 852ھ) نے فتح الباری میں اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ”روی بن ابی شیبۃ بإسناد صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 495، دار المعرفۃ، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) نے بھی اس روایت کے بارے

یہی فرمایا ”روی بن ابی شیبۃ بإسناد صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مواہب اللدنیہ، الفصل الرابع، ج 3، ص 374، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ)

درو دیں صورتِ بالہ محیطِ ماہِ طیبہ ہیں

برستائمتِ عاصی پہ اب رحمت کا پانی ہے

## انگلی کا اٹھانا اور بادلوں کا آنا

جلہمہ بن عرفطہ کہتے ہیں: (( قدمت مَكَّةَ وهم في قحط فقالت قُرَيْشُ يَا ابا طالب اقحط الوادي واجدب العيال فهلُمَّ واستسق فخرج ابو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغيلمة فأخذه ابو طالب فالصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا واغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب البادي والنادى ففي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه... ثمال اليتامى عصمة للأرامل)) ترجمہ: میں مکے آیا اور اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے تو قریش نے کہا کہ اے ابو طالب وادی میں قحط پڑ گیا، لوگ محتاجی میں مبتلا ہو گئے، آؤ اور پانی مانگو تو ابو طالب اس حال میں نکلے کہ ان کے ساتھ ایک وجیہ صورت نوجوان تھا گویا چمکتا سورج ہے کہ ابھی سیاہ بدلیوں سے نکلا ہے اس نوجوان کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابو طالب نے انہیں لیا اور ان کی پشت مبارک کعبہ سے ملا دی اس نوجوان نے اپنی انگلی اٹھائی حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہیں تھا لیکن اچانک ادھر، ادھر ہر طرف سے بادل آگئے، خوب بارش ہوئی حتیٰ کہ کیا شہر اور کیا دیہات، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے تو ابو طالب نے وہاں یہ شعر پڑھا ”یہ ایسی روشن و تابندہ شخصیت ہے کہ ان کے نورانی چہرہ کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یہ یتیموں کے ماوی اور بیواؤں کے بلجا و سہارا ہیں۔“

(خصائص کبری بحوالہ ابن عساکر، ذکر المعجزات، ج 1، ص 146، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## انگلیوں سے پانی کے چشمے بھا دئیے

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا

کہ ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء،

فَجَعَلَ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ زوراء کے مقام پر تھے آپ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سب نے وضو کر لیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ جواب دیا تین سو یا تین سو کے لگ بھگ۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 192، دار طوق النجاة)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ((كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: ااطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءَ وَابْنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهْرِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: ہم تو معجزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو تخویف کا باعث سمجھتے ہو، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پانی کم ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی تلاش کر لاؤ، تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور اس کے بعد فرمایا: برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت خدا کی طرف سے ہے، پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں کی گھاسیوں سے پانی ابل رہا تھا۔

(صحیح بخاری، علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 194، دار طوق النجاة)



انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری  
جوش پے آتی ہے جب غمخواری تشنہ سیراب ہوا کرتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ

((عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُكُوءَةً فَتَوَضَّأَ،

فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ

إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرُّكُوءَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يُثَوِّرُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ،

كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، فَشَرَبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ

لَكَفَّانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً)) ترجمہ: صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ

آپ کی جانب دوڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے

عرض کیا: ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے مگر یہی جو آپ کے

سامنے ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اسی پیالہ میں رکھ دیا تو

آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا حضرت جابر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ حضرات کتنی تعداد

میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا لیکن

اس وقت تو ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔

(صحیح بخاری، علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 193، دارطوق النجاة)

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

## کوچ کرنے تک

**حدیث:** حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں کہ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْفَاءِ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بُرٍّ فَنَزَحُوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى الْبُرَّ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ قَالَ: اتُّونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا، فَأَتَى بِهِ، فَبَصَقَ فَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً. فَأَرَوْا أَنفُسَهُمْ وَرَكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا)) ترجمہ: حدیبیہ کے روز وہ چودہ سو یا اس سے زائد حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس انہوں نے ایک کنویں پہ پڑاؤ کیا تو اس کا پانی ختم کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے (اور معاملہ عرض کیا)، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور اس کی منڈیر پہ بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا: اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول میرے پاس لاؤ، ڈول لایا گیا، پس آپ نے اس میں لعاب دہن مبارک ڈالا اور دعا کی، پھر فرمایا، اسے ایک ساعت کے لئے چھوڑ دو پھر (ٹھوڑی دیر بعد پانی اس قدر بڑھ گیا کہ) وہاں سے کوچ کرنے تک صحابہ نے خود کو اور اپنی سواریوں کو اس پانی سے خوب سیراب کیا۔

(صحیح بخاری، باب غزوة حدیبیہ، ج 5، ص 122، دار طوق النجاة)

جس کے پانی سے شاداب جان و جنان

اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام

## مشک کی خوشبو

**حدیث:** حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے

ہیں: ((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، ثُمَّ مَجَّ فِي الدَّلْوِ، ثُمَّ صَبَّ فِي الْبُرِّ أَوْ شَرِبَ مِنَ الدَّلْوِ، ثُمَّ مَجَّ فِي الْبُرِّ، فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رِيحِ

کی پھر اسے کنوئیں میں بہا دیا یا اس ڈول میں  
کنوئیں) میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔

ج 31، ص 134، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، سنہ 1411ھ

الکتب العربیہ، بیروت)

اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام

پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام

## در حکومت

ان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ

سُنْبِيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيهِ عَوْفٌ وَدَعَا عَلَيْهَا

قِيَامًا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيفَتَيْنِ مِنْ

فَاسْتَنْزَلُوهُمَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

مَزَادَتَيْنِ وَنُودِي فِي النَّاسِ: اسْقُوا هَذَا سَقَا

حَتَّى رَوَيْنَا فَمَلَأْنَا كُلَّ قَرِيْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةَ

بِخَيْلِ إِيْنَا أَشَدُّ مَلْنَةً مِنْهَا حِيْن

اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا پھر ان تو بڑوں کے منہ سے اس میں پانی اٹھایا اور لوگوں میں آواز دی گئی کہ پی لو چنانچہ لوگوں نے خوب پیا فرمایا کہ ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے پیا حتیٰ کہ سیر ہو گئے پھر ہم نے اپنے ساتھ والے مشکیزے اور برتن بھر لیے اللہ کی قسم ان سے پانی لینا جب بند کیا گیا تو ہم کو خیال ہوتا تھا کہ وہ ابتداء کے مقابلہ میں اب زیادہ پر ہیں۔

(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم، باب المعجزات، ج 3، ص 1647، المكتب الاسلامی، بیروت) ☆  
صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 191، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب قضاء الصلوة، ج 1، ص 474، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری کی روایت میں اتنا زیادہ ہے: ((ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسْرِ وَالْتَمَرِ، حَتَّى آتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ: لَقِيتُ أُسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيُّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرَاةِ فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمُوا)) ترجمہ: پھر فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ تو اس کے لئے چھوہارے اور کھجوریں جمع کی گئیں حتیٰ کہ وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی اس نے کہا کہ میں جس سے ملی ہوں یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا نبی ہے جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے پس اللہ عزوجل نے اس قبیلے کو اس عورت کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی وہ عورت اور تمام قبیلہ مسلمان ہو گئے۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 191، دار طوق النجاة)

## تھوڑا سا حلوہ اور تین سو آدمی

**حدیث:** حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمِدَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أُنْسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ



سیر ہو گئے ایک گروہ نکلتا تھا اور ایک داخل ہو جاتا تھا یہاں تک کہ سب نے کھا لیا تو مجھے فرمایا کہ اے انس اٹھا لو میں نے اٹھا لیا، میں نہیں جانتا کہ حلوہ اس وقت زیادہ تھا جب میں نے برتن رکھا یا اس وقت کہ جب میں نے اٹھایا۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب فی المعجزات، الفصل الاول، ج 3، ص 1661، المکتب الاسلامی، بیروت ☆  
صحیح بخاری، باب الہدیۃ للعروس، ج 7، ص 22، دارطوق النجاة)

## بیماری بھی دور، خوشبو بھی عطا

**حدیث:** حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عتبہ کے یہاں ہم چار عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک عتبہ کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی، پھر بھی جو خوشبو عتبہ کے جسم سے آتی وہ ہماری خوشبو سے بہت زیادہ ہوتی: ((وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَا شَمِنَا رِيحًا أَطِيبَ مِنْ رِيحِ عَتَبَةَ فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخَذَنِي الشَّرِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَّوتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَلْقَيْتُ ثُوبِي عَلَى فَرْجِي فَنفثَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي فَعَبِقَ بِي هَذَا الطَّيْبُ مِنْ يَوْمِئِذٍ)) ترجمہ: اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تو لوگ کہتے ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو عتبہ کی خوشبو سے اچھی ہو ایک دن ہم نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک کہ میں میرے بدن میں پھنسیاں نکل آئیں تو میں نے حضور کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی، آپ نے فرمایا: کپڑے اتار دیں میں نے کپڑے اتار دیئے اور اپنا ستر چھپا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن اپنے مبارک ہاتھ پر ڈال کر میرے پیٹ اور پیٹھ پر مل دیا تو میری بیماری دور ہو گئی اور اسی دن سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔

(المعجم الصغير، ج 1، 77، المکتب الاسلامی، بیروت ☆ المعجم الكبير، ما اسند عتبہ بن

فرقہ، ج 17، ص 134، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ ☆ خصائص کبریٰ، ج 2، ص 141، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر

رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے سے

پہلے فرماتے ہیں: ”وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ

جيد“ ترجمہ: اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں جید (عمدہ)

سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (خصائص کبریٰ، ج 2، ص 141، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## آنکھ عطا فرمادی

**حدیث:** حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((أُهِدِيَ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ فَدَفَعَهَا إِلَيَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَمَيْتُ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْدَقْتُ سَيْتَهَا وَلَمْ أَزَلْ فِي مَقَامِي نَصَبَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقَى السَّهَامَ وَوَجَّهِي دُونَهُ، فَكَانَ آخِرَهَا سَهْمٌ نَدَرْتُ مِنْهُ حَدَقَتِي

فَأَخَذْتُهَا وَأَنْهَزَمُوا فَأَخَذْتُ حَدَقَتِي بِيَدِي فَسَعَيْتُ بِهَا فِي كَفِّي إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَقَتِي فِي كَفِّي دَمَعَتْ

عَيْنَاهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ قِ قِتَادَةَ وَقِي نَبِيَّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِوَجْهِهِ فَاجْعَلْهَا أَحْسَنَ عَيْنِيهِ

وَأَحَدَهُمَا نَظْرًا. وَفِي حَدِيثٍ مَنْصُورٍ بِنِ أَحْمَدَ الْمَعْدَلِ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَكَانَتْ أَصَحَّ عَيْنِيهِ وَأَحَدَهُمَا)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

بارگاہ میں ایک کمان ہدیہ کی گئی، احد کے دن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے

دیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے اس کے ساتھ تیر پھینکنے شروع کر دیے

یہاں تک کہ اس کا سراٹھ گیا، میں اپنی جگہ کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے سامنے تیروں کو روکتا رہا اس حال میں کہ میرا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے تھا، آخر میں ایک تیر میری آنکھ میں آگیا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، میں اس ڈیلے کو اپنے ہاتھ میں لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، (یہ دیکھ کر) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور دعا کی: اے اللہ! جس طرح قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے خوبصورت اور تیز نظر والا بنا دے۔ منصور بن احمد معدل کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ڈیلے کو آنکھ میں رکھا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ صحیح اور تیز دیکھنے والی ہو گئی۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ج 1، ص 484، دارالنفائس، بیروت) ☆ (مجمع الزوائد، ج 8، ص 297، مکتبہ القدسی، القاہرہ)

بعض کتب میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے ((وَقَالَ ابْنُ اسْحَاقَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ أُصِيبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ عَيْنُ قَتَادَةَ ابْنِ النُّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِيهِ فَرَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنِيهِ وَاحِدَهُمَا)) ترجمہ: ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: احد والے دن حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگا جس سے ان کی آنکھ رخساروں پر بہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو لوٹا دیا اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی اور تیز ہو گئی۔

(خصائص کبریٰ، ج 1، ص 359، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ (سیرت حلبیہ، ج 2، ص 342، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں

طور بے طور ہیں بیماروں کے

## بصارت عطا فرمادی

**حدیث:** حضرت حَبِيبِ بْنِ فَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ((أَنَّ

أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مَبِيضَتَانِ لَا يَبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا، فَسَأَلَهُ مَا أَصَابَهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَنفَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَرَأَيْتَهُ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الْإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابْنُ ثَمَانِينَ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ مَبِيضَتَانِ)) ترجمہ: ان کی دونوں آنکھیں ایسی سفید ہو چکی تھیں کہ ان سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا تو ان کے والد انہیں حضور عبد اللہ کی بارگاہ میں لائے، آپ نے استفسار فرمایا کہ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے معاملہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پہ دم فرمایا تو میں نے دیکھا کہ آپ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگہ ڈال لیتے تھے حالانکہ آپ کی آنکھیں سفید تھیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، من رخص فی النفث فی الرقی، ج 5، ص 45، مکتبۃ الرشید، الرياض ☆ المعجم الکبیر للطبرانی، حبیب بن فریک، ج 4، ص 25، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ ☆ دلائل النبوہ للبیہقی، باب ماجاء فی نفثہ فی عینین، ج 6، ص 173، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## دکھتی آنکھ ٹھیک فرمادی

**حدیث:** صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا



إِلَيْهِ. فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَانُوا لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز فرمایا: یہ جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے رات بے چینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کل جھنڈا کسے ملتا ہے، جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا: انہوں بلاؤ، انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا انہیں تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرما دیا۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دار طوق النجاة)

دوسری روایت ہے ((فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ)) ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور انہیں کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوئی۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دار طوق النجاة)

شانی و نانی ہو تم، کافی و وانی ہو تم

درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود

## کٹا ہاتھ جوڑ دیا

**حدیث:** حضرت حبیب بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

فرماتے ہیں: ((شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهُدًا فَأَصَابَتِي ضَرْبَةٌ عَلِيَّ

عَاتِقِي فَتَعَلَّقَتْ يَدِي فَأَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلَّ فِيهَا وَالزَّقَهَا فَالتَّامَتْ  
وَبَرَاتٍ وَقَتَلْتَ الَّذِي ضَرَبَنِي)) ترجمہ: میں ایک جنگ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ  
وسلم کے ساتھ شریک تھا کہ میرے کندھے پر ضرب لگی اور میرا ہاتھ لٹک گیا میں حضور کی  
بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور اسے جوڑ دیا تو میرا ہاتھ  
تندرست ہو گیا اور جس نے مجھے ضرب لگائی تھی میں نے اسے قتل کیا۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في تعلقه، ج 6، ص 178، دارالكتب العلمية، بيروت) ☆ الخصائص  
الكبرى، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 116، دارالكتب العلمية، بيروت)

## ٹوٹی پنڈلی لمحے میں درست فرمادی

**حدیث:** حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ  
جب حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابورافع یہودی کو (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
کا بہت بڑا دشمن تھا) قتل کرنے کے بعد اس کے اونچے مکان سے اترنے لگے تو زینے  
سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اسی وقت گرم گرم اپنے عمامے سے  
باندھ لی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا ماجرا بیان  
کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((أَبْسَطُ رَجُلَكَ فَبَسَطْتُ رَجُلِي فَمَسَحَهَا،  
فَكَانَهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ)) ترجمہ: اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے پھیلا دیا تو حضور صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس پر اپنا دستِ کرم پھیر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس میں سرے سے  
کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔

(بخاری، باب قتل ابی رافع، ج 5، ص 91، دار طوق النجاة ☆ مشکوٰۃ المصابیح، باب المعجزات،  
الفضل الاول، ج 3، ص 1645، المكتبة الاسلامی، بیروت) ☆ الخصائص الكبرى، ج 1، ص 390،  
دارالكتب العلمية، بیروت)

## سلمہ بن اکوع کی پنڈلی بھی درست فرمادی

**حدیث:** امام بخاری علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر غزوہ خیبر کے دن ایسی مار لگی کہ لوگوں کو آپ کے شہید ہونے کا گمان ہو گیا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ((فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ)) ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے تین بار اس پر اپنا لعاب دہن لگایا پھر کبھی پنڈلی میں درد نہ ہوا۔ (صحیح بخاری، باب غزوة خیبر ج 5، ص 133، دار طوق النجاة)

## نابینا آنکھوں کو دکھانے والے، بھرے کانوں کو سنانے والے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کرنے والے

**حدیث:** حضرت ام الدرداء سے روایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے کعب احبار سے پوچھا تم توریت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کیا پاتے ہو؟ کہا: حضور کا وصف توریت مقدس میں یوں ہے ((مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمَتَوَكِّلِ لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَعْطِيَ الْمَفَاتِيحَ لِيَبْصُرَ اللَّهُ بِهِ أَعْيُنًا عَوْرًا وَيَسْمَعَ بِهِ آذَانًا صَمًّا وَيُقِيمَ بِهِ السَّنَةَ مَعُوجَةً حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يُعِينُ الْمَظْلُومَ وَيَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَسْتَضَعِفَ)) ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں ان کا نام متوکل ہے، نہ درشت خو ہیں نہ سخت گو، نہ بازاروں میں چلانے والے، وہ کنجیاں دئے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے پھوٹی آنکھیں بینا اور بھرے کان شنوا اور ٹیڑھی زبانیں سیدھی کر دے یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ نبی کریم ہر مظلوم کی مدد فرمائیں گے اور اسے کمزور سمجھے جانے سے بچائیں گے۔

ادلائل النبوة للبيهقي، باب صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والانجيل، ج 1،

ص 377، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ (الخصائص الكبرى، باب ذکرہ فی التوراة والانجیل، ج 1، ص 20، 21، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## ہر قسم کی کنجیاں دی گئیں

**حدیث:** ام المؤمنین و محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہا و آلہا و علیہا وسلم فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت و ثنا انجیل پاک میں مکتوب ہے (( لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍّ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَعْطَى الْمِفَاتِيحَ الْخَيْرَ )) ترجمہ: نہ سخت دل ہیں نہ درشت خو، نہ بازاروں میں شور کرتے، انہیں کنجیاں عطا ہوئی ہیں۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والانجيل، ج 1، ص 377، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ (الخصائص الكبرى، باب ذکرہ فی التوراة والانجيل، ج 1، ص 20، 21، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ الطبقات الكبرى لابن سعد، ذکر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل، ج 1، ص 363، دارصادر بیروت)

ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے  
مالک کل کہلاتے یہ ہیں

## قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (( إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي )) ترجمہ: میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

(صحیح بخاری، باب من یرد اللہ بہ، ج 1، ص 25، دارطوق النجاة)

خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم  
تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود

## خزانے لٹانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (( إِنَّمَا أَنَا



خَازِنٌ)) ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 718، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں: ((إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ

يُعْطِي)) ترجمہ: میں ہی قاسم اور خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔

(صحیح بخاری، ج 4، ص 84، دار طوق النجاة)

انہیں کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ لے سوں گے کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں

## زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں

**حدیث:** بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ

حضور مالک المفاتیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي)) ترجمہ: میں سو رہا تھا کہ تمام خزانوں زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، ج 4، ص 54، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، کتاب المساجد وموضع الصلوة، ج 1، ص 372، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد و ابو بکر بن ابی شیبہ سیدنا علی کریم (رضی اللہ عنہما) کے راوی ہیں کہ حضور مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ)) ترجمہ: مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا، رعب سے میری مدد فرمائی گئی (کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک کر کانپے) اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں۔

(مسند احمد بن حنبل، عن علی رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 156، مؤسسة الرسالة، بیروت، المصنف

لابن ابی شیبہ، کتاب المناقب، ج 6، ص 304، مکتب الرشید، ریاض)

اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل  
حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے

## اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں

**حدیث:** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارْتُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ  
جَاءَنِي مَلِكٌ وَإِنَّ حُجْرَتَهُ لَتَسَاوِي الكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ  
وَيَقُولُ: إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَانظُرْتُ إِلَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعُ نَفْسِكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ فَأَشَارَ جَبْرِيلُ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعُ. فَقُلْتُ: نَبِيًّا  
عَبْدًا قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مَتَكًا  
يَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ)) ترجمہ: اے

عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں،  
(پھر فرمایا:) میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبہ کے برابر تھی، اس نے عرض  
کیا: آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ عبد نبی  
بنیں اور اگر چاہیں تو بادشاہ نبی بنیں، میں نے جبرئیل (علیہ السلام) کی طرف دیکھا تو  
انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں عرض کی۔ حضرت ابن عباس رضی  
اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل  
علیہ السلام کی طرف مشورہ لینے کے سے انداز سے دیکھا تو جبرئیل علیہ السلام نے ہاتھ  
سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں عبد نبی  
بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: اس کے بعد آپ تکیہ لگا  
کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاؤں گا جیسے عبد کھاتے ہیں اور ایسے

بیٹھوں گا جیسے عبد بیٹھتے ہیں۔

(شرح السنة، للبلغوی، باب توضعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 13، ص 248، المکتب الاسلامی، بیروت) مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، ص 1622، 1623، المکتب الاسلامی، بیروت)

## اگر خاموش رہتے تو

**حدیث:** حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ: ((أُهِدِيْتُ

لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أُهِدِيْتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذَّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ الْآخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذَّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بِكَ لَوْ سَكَّتَ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَّتُ)) ترجمہ: میرے پاس بکری ہدیہ بھیجی گئی، اسے ہانڈی میں ڈال دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا: ابورافع یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ بکری ہے جو ہمیں ہدیہ ملی پھر ہم نے اسے ہانڈی میں پکالیا حضور نے فرمایا: اے ابورافع ہم کو ایک دست دو میں نے دست پیش کر دیا پھر فرمایا کہ دوسرا دست بھی دو میں نے دوسرا دست بھی پیش کر دیا پھر فرمایا: اے ابورافع اور دست لاؤ، عرض کیا یا رسول اللہ بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں، تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چپ رہتے تو ہم کو دست پر دست دیتے رہتے جب تک کہ چپ رہتے۔

(مشکوٰۃ ج 1، ص 106، المکتب الاسلامی، بیروت) (مسند احمد بن حنبل، ج 45، ص 172،

مؤسسة الرسالة، بیروت)

## دودھ کا ایک پیالہ اور تمام اصحاب صفہ

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی جس

کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعتماد کرتا تھا اور میں بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں عام راستہ پر بیٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے متعلق پوچھا اور میں نے ان سے صرف اس لئے پوچھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں (اور کچھ کھلائیں) مگر وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا اور ان سے بھی میں نے اسی لئے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں مگر وہ بھی چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابو القاسم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مجھے دیکھا اور میرے دل کی کیفیت جان کر مسکرائے، اس کے بعد فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ چلو اور آپ تشریف لے چلے تو پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا، جب آپ کا شانہ نبوت میں داخل ہوئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں بھی اندر داخل ہو گیا، میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے نہ تو ان کے پاس گھر تھا اور نہ مال و دولت، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ آتا تو آپ اسے ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیا





ہوئے وہ پیالہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا اور سب اصحاب صفہ سیر ہو چکے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے مقدس ہاتھ پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا بیک یا رسول اللہ فرمایا: اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو تو میں نے پیا فرمایا اور پیو تو میں نے پھر پیو آپ برابر یہی فرماتے رہے کہ اور پیو تو میں اور پیتار ہا یہاں تک کہ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اب دودھ گزرنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔

(بخاری، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 8، ص 96، دار طوق النجاة)

کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر  
جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا

### کھجوریں ہی کھجوریں

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ لشکریوں کو کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ! تمہارے کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میرے تھیلے میں کچھ کھجوریں ہیں تو فرمایا لے آؤ تو میں تھیلے کو لے کر حاضر ہوا، فرمایا: دسترخوان لے آؤ، تو میں دسترخوان لے آیا اور اسے بچھا دیا، پھر آپ نے کھجوریں نکالیں تو وہ اکیس دانے تھے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے آپ کے دست مبارک میں آ گئے، پھر آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا:



ہے، فرماتے ہیں: ((كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتَهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ)) (ولفظ الطبرانی فقال يوماً يا زبيعة سلني فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم) قال فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود)) ترجمہ: میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک شب حضور کے لیے آب وضو وغیرہ ضروریات لایا (رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا) ارشاد فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں۔ میں نے عرض کی: میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں۔ فرمایا: کچھ اور؟ میں نے عرض کی: میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا: تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجد سے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل السجود، ج 1، ص 193، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆  
(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت قیام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اللیل، ج 1، ص 187، آفتاب عالم پریس، لاہور) ☆ (المعجم الكبير، ج 5، ص 57، 58، المكتبة الفيصلية، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ”الحمد لله یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح اپنے ہر جملے سے وہابیت کش ہے۔ حضور اقدس خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلقاً بلا قید و بلا تخصیص ارشاد فرمانا: نسل، مانگ کیا مانگتا ہے، جان وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا تقید ارشاد ہوا: مانگ کیا مانگتا ہے یعنی جو جی میں آئے مانگو کہ ہماری سرکار میں سب کچھ ہے۔“



گر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری  
 بدر گاهش بیا و ہرچہ میخواهی تمنا کن  
 ترجمہ: اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں آ اور جو  
 چاہتا ہے مانگ لے۔

شیخ شیوخ علماء الہند عارف باللہ عاشق رسول اللہ برکتہ المصطفیٰ فی ہذہ  
 الدیار سیدی شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی ندوی سرہ (نور) شرح مشکوٰۃ شریف  
 میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں "از اطلاق سوال کہ فرمودش  
 بخوآہ تخصیص نکرد بمطلوبے خاص معلوم میشود کہ  
 کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ  
 خواہد و کرا خواہد باذن پروردگار خود دہد" ترجمہ: مطلق  
 سوال سے کہ آپ نے فرمایا: مانگ۔ اور کسی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی  
 ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں  
 اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرمادیں۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوٰۃ، باب السجود وفضله، الفصل الاول، ج 1، ص 396، مکتبہ نوریہ  
 رضویہ، سکھر)

فان من جودك الدنيا وضررتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کا ہے جس میں سیدی امام اجل محمد بوسیری قدس سرہ  
 حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! دنیا و آخرت  
 دونوں حضور کے خوان جود و کرم سے ایک حصہ ہیں اور لوح و قلم کے تمام علوم (جن میں  
 ماکان وما یکون جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے والا ہے ذرہ ذرہ بالتفصیل

مندرج ہے) حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔

(الکواکب الدزیه فی مدح خیر البریۃ (قصیدہ بردہ)، الفصل العاشر، ص 56، مرکز اہلسنت  
گجرات، الہند)

اور پہلا شعر کہ ”اگر خیریت دنیا و عقبی الخ“، حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ کا  
ہے کہ قصیدہ نعتیہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا ہے۔

الحمد للہ یہ عقیدے ہیں ائمہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی  
جناب عالم تاب میں، برخلاف اس سرکش طاغی شیطان لعین کے بندہ داغی جو کہ ایمان  
کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر کہتا ہے ”جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

(تقویۃ الایمان، الفصل الرابع فی ذکر رد الاشرک فی العبادۃ، ص 28، مطبع علمی اندرون لوہاری  
دروازہ، لاہور)

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یؤخذ من  
إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ (النَّكَلُ) الْأَمْرَ بِالسُّؤَالِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكْنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ  
خَزَائِنِ الْحَقِّ“ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے  
مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو  
چاہیں عطا فرمادیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتب الصلوٰۃ، باب السجود وفضله، الفصل الاول، ج 2، ص 615، المكتبة الحبیبیہ  
کوئٹہ)

والحمد لله رب العالمین۔

مالک کوئین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

پھر اس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان و ہابیت پر یہ کیسی آفت کہ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود

حضور سے جنت مانگتے ہیں کہا (اسئلك مرافقتك في الجنة يا رسول الله!) میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والا عطا ہو۔

وہابی صاحبو! یہ کیسا کھلا شرک و ہابیت ہے جسے حضور مالک جنت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحمیۃ قبول فرما رہے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 494، 495، 496، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

## مالک جنت

**حدیث:** حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحَتْ لَهُ، فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ، فَبَشَّرْتَهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَفَتَحَتْ لَهُ فَأَبَا هُوَ عُمَرُ، فَأَخْبَرْتَهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَيَّ بَلْوَى تُصِيبُهُ، فَأَبَا عُثْمَانُ، فَأَخْبَرْتَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ)) ترجمہ: میں مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا، ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر تھے میں نے ان کو اس کی بشارت دی جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر ایک اور شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق تھے، میں نے اس کی خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر

ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت کے بدلے جو انہیں پہنچے گی، دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی تھے، میں نے انہیں اس بات کی خبر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، انہوں نے اللہ کی حمد کی اور پھر کہا کہ اللہ مددگار ہے۔

(صحیح بخاری، باب مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ج 5، ص 13، دار طوق النجاة صحیح مسلم، باب من فضائل عثمان رضی اللہ عنہ، ج 4، ص 1867، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

## تیرے لیے جنت میں درخت

**حدیث:** حدیث پاک میں ہے ((جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: يا رسول الله! إن لفلان نخلة في حائطي، فمرة فليبعنيها أو ليهبها لي، فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال: افعلْ ولك بها نخلة في الجنة فأبى، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: هذا أبخل الناس)) ترجمہ: ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فلاں شخص کا میرے باغ میں درخت ہے، آپ سے ارشاد فرمائیں کہ وہ درخت مجھے بیچ دے یا تحفہ دے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (باغ والے) سے ارشاد فرمایا: ایسا کر دو تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں درخت ہے، اس نے انکار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر بخیل (کنجوس) ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 2، ص 426، دار الوطن، ریاض)

## اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنی کر دیا

**حدیث:** سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی تو سید عالم معنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: ابن جمیل کو کیا برا لگا



یہی ناکہ وہ محتاج تھا اللہ و رسول نے اسے غنی کر دیا، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ فی الرقاب والغارمین، ج 1، ص 198، قدیمی کتب خانہ، پشاور)

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے  
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی  
**حافظہ عطا فرمایا**

**حدیث:** امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے

ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! ((إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أُنْسَاهُ؟ قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتَهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ فَضَمَّمْتَهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ)) ترجمہ: میں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنی لیکن وہ سب بھول گئیں، حضور نے فرمایا اپنی چادر پھلاؤ میں نے پھیلا دی تو آپ نے لپ بھر کر اس میں ڈال دیا پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لو میں نے لگالی، پس میں اس کے بعد کسی چیز کو نہیں بھولا۔

(بخاری، باب حفظ العلم، ج 1، ص 35، دارطوق النجاة)

خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم  
تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود

**حلم، ہیبت، شجاعت اور کرم عطا فرمایا**

**حدیث:** حضرت بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں شاہزادوں کو

لے کر خدمت انور سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی ((یا رسول اللہ انخلهما)) یا رسول اللہ! ان دونوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ ((قال نعم)) قاسم خزان الہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں منظور۔ ((اما الحسن فقد نحلته حلمی وھیبتی واما الحسین فقد نحلته نجدتی وجرودی)) حسن کو تو میں نے

اپنا حلم اور ہیبت عطا کی اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔

(تاریخ دمشق الكبير، ج 14، ص 141، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بعض کتب میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس مرض میں وصال مبارک ہوا ہے اس میں دو جہان کی شاہزادی اپنے دونوں شہزادوں کو لئے اپنے پدر کریم علیہ وسلم (الصلوة والسلام) کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی (یا رسول اللہ ہذان ابنک فورثہما شیئاً) یا رسول اللہ! یہ میرے دونوں بیٹے ہیں انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیے۔

ارشاد ہوا ((أما الحسنُ فلهُ هیبتی وسودی، وأما حسینُ فلهُ جرأتی وجودی)) ترجمہ: حسن کے لیے تو میری ہیبت اور سرداری ہے اور حسین کے لیے میری جرأت اور میرا کرم۔

(المعجم الكبير، ج 22، ص 423، المكتبة الفيضیة، بیروت) ☆ (کنز العمال، ج 7، ص 268، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

## جو چاہے مانگ

**حدیث:** امیر المؤمنین مولا علی (ع) اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا اگر حضور کو منظور ہوتا نہ فرماتے یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا یعنی ”نہ“ نہ فرماتے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا سکوت فرمایا، پھر سوال کیا اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھڑکنے کے انداز سے فرمایا ((سَلْ مَا شِئْتَ يَا أَعْرَابِيَّ!)) ترجمہ: اے اعرابی! جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔

مولیٰ علی (ع) اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں ((فَغَبَطْنَا، فَقُلْنَا: الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ

((ترجمہ: یہ حال دیکھ کر) کہ حضور خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جو دل میں آئے مانگ لے) ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا، ہم نے اپنے جی میں کہا اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔

اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ: ((أَسْأَلُكَ رَاحِلَةً)) ترجمہ: میں حضور سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا: عطا ہوا۔ عرض کی: ((أَسْأَلُكَ زَادًا)) ترجمہ: حضور سے زاد راہ مانگتا ہوں۔ فرمایا: عطا ہوا۔

ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ پھر حضور نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا کنار دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: الہی! یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا: تم قبر یوسف (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے پاس ہو ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا فرمایا: اگر تم میں کوئی جانتا ہو تو شاید بنی اسرائیل کی پیرزن (بوڑھی عورت) جانتی ہو، اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: تو مجھے بتا دے۔ عرض کی: ((لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَا أَسْأَلُكَ)) ترجمہ: خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی یہاں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرمادیں۔ فرمایا: ((ذَلِكَ لَكَ)) ترجمہ: تیری عرض قبول ہے۔ ((فَبِئْسَ أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ)) پیرزن نے عرض کی: تو میں حضور سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے

ساتھ ہوں اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ ((قَالَ نَسَلِي الْجَنَّةَ))  
 موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے اتنا بڑا سوال  
 نہ کر۔ ((قَالَتْ لَا وَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ)) پیرزن نے کہا: خدا کی قسم میں نہ مانوں  
 گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ((فَجَعَلَ مُوسَىٰ يُرَادُّهَا، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ تَبَارَكَ  
 وَتَعَالَىٰ إِلَيْهِ: أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهَا)) موسیٰ علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ عزوجل نے وحی بھیجی موسیٰ! وہ جو مانگ  
 رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا فرمادی، اس نے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی  
 قبر بتادی، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نعتش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور فرما گئے۔

(المعجم الاوسط، من اسمه محمد، ج 7، ص 374، دارالحرمنین، القاہرہ، كنز العمال،  
 ج 2، ص 616، 617، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا

نہ یہاں ”نا“ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا ”کیا ہے“

اس حدیث پاک کے تحت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے  
 ہیں ”بحمدہ تعالیٰ“ اس حدیث نفیس کا ایک ایک حرف جان و ہابیت پر کوکب شہابی  
 ہے۔

**اولاً:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعرابی سے ارشاد کہ ”جو جی میں

آئے مانگ لے“ حدیث ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو اطلاق ہی تھا جس سے علمائے

کرام نے عموم مستفاد کیا، یہاں صراحتہ خود ارشاد اقدس میں عموم موجود کہ جو دل میں

آئے مانگ لے ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وبارک علیہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ صحبہ وسلم وفضلہ۔



**ثانیاً:** یہ ارشاد سن کر مولیٰ علی وغیرہ صحابہ حاضرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا غبطہ (رشک کرنا) کہ کاش یہ عام انعام کا ارشاد کرام ہمیں نصیب ہوتا حضور تو اسے اختیار عطا فرما ہی چکے اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ معلوم ہوا کہ بحمد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا یہی اعتقاد تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ عزوجل کے تمام خزانوں رحمت دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہیں بخش دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

**ثالثاً:** خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت اس اعرابی کے قصور ہمت پر تعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے حطام دنیا (مال دنیا) مانگنے بیٹھا، پیر زن اسرائیلیہ (اسرائیل کی بوڑھی عورت) کی طرح جنت نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم زبان دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہی اسے عطا فرما دیتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

**رابعاً:** ان بڑی بی بی پر اللہ عزوجل کے بیٹھار رحمتیں بھلا انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدائی کارخانہ کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسے اعلیٰ درجے عطا کر دینے پر قادر مان کر شرک کیا تو موسیٰ کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا ہوا کہ یہ با آں شان غضب و جلال اس شرک پر انکار نہیں فرماتے، اس کے سوال پر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے جو اقرار کیا تھا تو ان چیزوں کا جو اپنے اختیار کی ہوں، بھلا جنت اور جنت کا بھی ایسا درجہ یہ خدا کے گھر کے معاملے میں میرا کیا اختیار۔ بڑی بی بی! تم مجھے خدا بنا رہی ہو، پہلے تمہارے لئے کچھ امید ہو بھی سکتی تو اب تو شرک کر کے تم نے جنت اپنے اوپر حرام کر لی۔ افسوس کہ موسیٰ کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کچھ نہ فرمایا، اس بھاری شرک پر اصلاً انکار نہ کیا۔

**خامسا:** انکار اور کنار اور رجسٹری کہ ((سلی الجنة)) اپنی لیاقت سے بڑھ کر تمنانہ کرو، ہم سے جنت مانگ لو، ہم وعدہ فرما چکے ہیں عطا کر دیں گے تمہیں یہی بہت ہے۔

**سابعاً:** پچھلا فقرہ تو قیامت کا پہلا صورت ہے ((فاعطاها)) موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کو جنت عالیہ عطا فرمادی۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 30، ص 600، 601، 602، 603، 604، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب

اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے

**تو نے بہت تھوڑا مانگا**

**حدیث:** حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمتیں حنین میں تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! حضور نے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا، ارشاد ہوا ((صدقۃ فاحتکم ماشئت)) تو نے سچ کہا، اچھا جو جی میں آئے کہہ دے۔ عرض کی اسی دنے اور ان کا چرانے والا غلام عطا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تجھے عطا ہوا اور تو نے بہت تھوڑی چیز مانگی ((ولصاحبة موسیٰ التي دلته علی عظام یوسف کانت افہم منك حین حکمها موسیٰ فقالت حکمی ان تردنی شابة وادخل معک الجنة)) ترجمہ: اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بڑھیا جس نے انہیں یوسف علیہ السلام کا تابوت بتایا تھا، تجھ سے زیادہ دانشمند تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مانگ لے، اس نے کہا: میں قطعی طور پر یہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس کر دیں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ یونہی ہوا کہ وہ ضعیفہ فوراً جوان ہو گئی، اس کا حسن و جمال واپس آیا اور جنت میں بھی معیت کا وعدہ کلیم کریم نے

عطا فرمایا۔

(المستدرک للحاکم، ج 2، ص 404، دارالفکر، بیروت) ☆ (اتحاف السادة المتقين بحوالہ ابن حبان  
والحاکم، ج 7، ص 509، دارالفکر، بیروت)

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیئے ہیں ڈر بے بہا دیئے ہیں

## اونٹ کی فریاد رسی فرمائی

**حدیث:** حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے

ہیں (( كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ بَعِيرٌ يَعْدُو حَتَّى وَقَفَ  
عَلَى هَامَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْبَعِيرُ اسْكُنْ فَإِنْ  
تَكُ صَادِقًا فَلِكُ صَدَقِكَ وَإِنْ تَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبُكَ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
قَدْ أَمِنَ عَائِدُنَا وَلَيْسَ بِخَائِبٍ لَائِدُنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الْبَعِيرُ  
فَقَالَ هَذَا بَعِيرٌ قَدِ هَمَّ أَهْلُهُ بِنَحْرِهِ وَأَكَلَ لَحْمَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ وَاسْتَعَاثَ  
بِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَادُونَ فَلَمَّا نَظَرَ  
إِلَيْهِمُ الْبَعِيرُ عَادَ إِلَى هَامَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاذِ بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
هَذَا بَعِيرُنَا هَرَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَمْ نَلْقَهُ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَمَا إِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ فَبُنِست الشكاية فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّهُ  
رَبِّي فِي أَمْنِكُمْ أَحْوَالًا وَكُنْتُمْ تَحْمِلُونِ عَلَيْهِ فِي الصَّيْفِ إِلَى مَوْضِعِ الْكَلْبِ  
فَإِذَا كَانَ الشَّتَاءُ رَحَلْتُمْ إِلَى مَوْضِعِ الدِّفَاءِ فَلَمَّا كَبُرَ اسْتَفْحَلْتُمُوهُ فَرَزَقَكُمْ  
اللَّهُ مِنْهُ إِبِلًا سَائِمَةً فَلَمَّا أَدْرَكْتَهُ هَذِهِ السَّنَةُ الْخَصْبَةُ هَمِيتُمْ بِنَحْرِهِ وَأَكَلَ  
لَحْمَهُ فَقَالُوا قَدْ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا جَزَاءُ  
الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا لَا نَبِيغُهُ وَلَا نَنْحِرُهُ فَقَالَ

عَنْهُ (الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ) كَذَبْتُمْ قَدْ اسْتَعَاثَ بِكُمْ فَلَمْ تَغِيثُوهُ وَأَنَا أُولَى بِالرَّحْمَةِ مِنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ وَأَسْكَنَهَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فَاشْتَرَاهُ عَنِ (الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ) مِنْهُمْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْبَعِيرُ انْطَلِقْ فَأَنْتَ حَرٌّ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَرَعَى عَلَى هَامَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ (الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ) آمِينَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ دَعَا الرَّابِعَةَ فَبَكَى عَنِ (الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ) فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الْبَعِيرُ قَالَ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ خَيْرًا فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ سَكَنَ اللَّهُ رِجْلَ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَكَنَتْ رِجْلِي فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ حَقَّنَ اللَّهُ دِمَاءَ أُمَّتِكَ مِنْ أَعْدَائِهَا كَمَا حَقَّنَتْ دَمِي فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ لَا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهَا بَيْنَهَا فَبَكَيْتُ فَإِنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ سَأَلْتُ رَبِّي فَأَعْطَانِيهَا وَمَنْعَنِي هَذِهِ وَأَخْبَرَنِي جُبْرِيلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالسَّيْفِ جَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ (كَائِنٌ) ترجمہ: ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ناگاہ ایک اونٹ دوڑتا آیا یہاں تک کہ حضور کے سر مبارک کے قریب آ کر کھڑا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اونٹ! ٹھہرا اگر تو سچا ہے تو تیرے سچ کا پھل تیرے لیے ہے اور جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کا وبال تجھ پر ہے، اس کے ساتھ یہ بات بیشک کہ جو ہماری پناہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امان رکھی ہے اور جو ہمارے حضور التجا لائے وہ نامرادی سے بری ہے۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ اونٹ کیا عرض کرتا ہے؟ فرمایا: اس کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھا لینا چاہتا تھا یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور تمہارے نبی کے حضور فریاد لایا۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اتنے میں اس کا مالک یا کہا اس کے مالک دوڑتے آئے، اونٹ



نے جب انہیں دیکھا پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرانور کے پاس آ گیا اور حضور کی پناہ پکڑی، اس کے مالکوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارا اونٹ تین دن سے بھاگا ہوا ہے آج حضور کے پاس ملا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سنتے ہو اس نے میرے حضور نالش (شکایت) کی ہے اور بہت ہی بری نالش ہے۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا: یہ کہتا ہے کہ وہ برسوں تمہاری امان میں پلا گرمی میں تم اس پر اسباب لا کر سبزہ ملنے کی جگہ تک جاتے اور جاڑے میں گرم مقام تک کوچ کرتے، جب وہ بڑا ہوا تو تم نے اسے سائنڈ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے سے تمہارے بہت اونٹ کر دیے جو چرتے پھرتے ہیں، اب جو اسے یہ شاداب برس آیا تم نے اسے ذبح کر کے کھا لینا چاہا۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! خدا کی قسم! یونہی ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مملوک کا بدلہ اس کے مالکوں کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! تو ہم اسے نہ بچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ فرمایا: غلط کہتے ہو اس نے تم سے فریاد کی تو تم اس کی فریاد کو نہ پہنچے اور میں تم سے زیادہ اس کا مستحق و لائق ہوں کہ فریادی پر رحم فرماؤں، اللہ عزوجل نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی اور ایمان والوں کے دلوں میں رکھی ہے، پس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ان سے سو روپے کو خرید لیا اور اس سے ارشاد فرمایا: اے اونٹ! چلا جا کہ تو اللہ عزوجل کے لئے آزاد ہے۔ یہ سن کر اس نے سر اقدس پر اپنی بولی میں کچھ آواز کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس نے دوبارہ آواز کی حضور نے پھر آمین کہی۔ اس نے سہ بارہ عرض کی حضور نے پھر آمین کہی اس نے چوتھی بار کچھ آواز کی اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا: اس نے کہا اے نبی اللہ! اللہ عزوجل حضور کو اسلام و

قرآن کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین، پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف دور کرے جس طرح حضور نے میرا خوف دور کیا میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ جل و علا حضور کی امت کے خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے (کہ کفار کبھی انہیں استیصال نہ کر سکیں) جیسا حضور نے میرا خون بچایا، میں نے کہا آمین، پھر اس نے کہا اللہ سبحانہ امت والا کی سختی ان کے آپس میں نہ رکھے (باہمی خونریزی سے دور رہیں)، اس پر میں نے گریہ فرمایا کہ یہ سب مرادیں میں اپنے رب عزوجل سے مانگ چکا اور اس نے مجھے عطا فرما دیں مگر یہ پچھلی منع فرمائی اور مجھے جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ عزوجل کی طرف سے خبر کر دی کہ میری امت کی فنا تلوار سے ہے۔ قلم چل چکا شدنی پر۔

(الترغیب والترہیب، ج 3، ص 207، 208، مصطفیٰ البابی، مصر)

## ہرنی کی فریاد رسی

**حدیث:** القول البدیع میں حلیۃ الاولیاء لابن نعیم کے حوالے سے حدیث

پاک ہے ((أن رجلاً مر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ظبی قد اصطاده فانطلق اللہ سبحانہ الذی لأنطق کل شیء الظبی فقالت یا رسول اللہ ان لی اولاداً وأنا أرضعهم وأنهم الآن جیاع فأمر هذا أن یخلیني حتی أذهب فأرضع اولادی وأعود قال فإن لم تعودی قالت إن لم أعد فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصل علیک، أو کنت کمن صلی ولو یدع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أطلقها وأنا ضامنہا فذهبت الظبیه ثم عادت فنزل جبریل علیہ السلام وقال یا محمد اللہ یقرئک السلام ویقول لک وعزتی وجلالی أنا أرحم بامتک من هذه الظبیه بأولادها وأنا أردہم إلیک كما رجعت الظبیه

إليك فتني (لله عليه و نزل) ترجمہ: ایک آدمی کا گزر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، اس کے پاس ہرنی تھی جو اس نے ابھی ابھی شکار کی تھی، جس اللہ سبحانہ نے ہر چیز کو قوتِ گویائی عطا فرمائی ہے اس نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمادی، ہرنی نے عرض کیا: میرے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلاتی ہوں اور ابھی وہ بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے، یہاں تک کہ میں جاؤں اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں، سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے ارشاد فرمایا: اگر تو لوٹ کر نہ آئی تو؟، اس نے عرض کیا: اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برے جیسا کہ اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے یا میں اس کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکاری سے ارشاد فرمایا: اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضمان ہوں یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ ہرنی گئی اور (بچوں کو دودھ پلا کر) واپس آ گئی، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے: مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی امت پر اس سے بڑھ کر مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، اور میں (قیامت کے دن) اسے آپ کی طرف لوٹا دوں گا جیسا کہ یہ ہرنی آپ کے پاس لوٹ کر آئی ہے۔

(القول البديع في الصلوة على الحبيب، الباب الثاني، ج 1، ص 153، دار الريان للتراث، دلائل النبوة لابی نعیم، ذکر الظبی والضب، ج 1، ص 376، دار النفائس، بیروت)

ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد  
اسی در پر شترانِ ناشاد گلہ رنج و عنا کرتے ہیں

## اونٹ پر حکومت

**حدیث:** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((غزوتُ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَلَّاحِقَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَيْبِي،

قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَجَرَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ

أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ)) ترجمہ: میں ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں جس اونٹ پر سوار تھا وہ تھک گیا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ (مزید) چلے گا، رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: حضور! وہ تھک گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: پھر رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کے پیچھے تشریف لائے، اسے ڈانٹا اور اس کے لئے دعا فرمائی، تو وہ سب سے آگے چلنے لگا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

پوچھا: تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی: حضور خیریت سے ہے، آپ کی برکت اسے پہنچی ہے۔

(صحیح بخاری، باب استئذان الرجل الإمام، 4، ص 51، دار طوق النجاة)

## گاوہ کی گواہی

**حدیث:** امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَخْفَلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ قَدْ صَادَ ضَبًّا، وَجَعَلَهُ فِي كِمِّهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ

فِي شَوْبِهِ وَيَأْكُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ

نَبِيٌّ، فَجَاءَ حَتَّى شَقَّ النَّاسَ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالغَزَى لَا أَمْنُ بِكَ أَوْ يُؤْمِنُ بِكَ



هذا الضب، وأخرج الضب من كفه و طرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضب! فأجاب الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة، قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمة، وفي النار عقابه، قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك، قال الأعرابي: لا أتبع أثراً بعد عين والله لقد جئتكم وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك، وإنك اليوم أحب إلي من والدي، ومن عيني، ومني، وإنني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت رسول الله)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے تھے کہ اچانک بنی سلیم کا ایک دیہاتی گوہ شکار کر کے لایا اور اسے اپنی آستین میں رکھے ہوئے تھاتا کہ سفر میں ساتھ لے جائے اور بھون کر کھائے، جب اس نے اس جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور بولا: لات وعزی کی قسم (یہ دو بتوں کے نام ہیں) میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے اور اس نے گوہ اپنی آستین سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گوہ! تو گوہ نے فصیح عربی میں جس کو سب لوگوں نے سنا، جواب دیا: حاضر ہوں یا رسول اللہ! اے وہ ذات جو محشر والوں کی زینت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا: اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی حکومت زمینوں پر ہے اور جس کی رحمت جنتوں میں اور جس

کا عذاب دوزخ میں ہے۔ سرکارِ عقبہ (ﷺ) نے فرمایا: کہ اے گوہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ وہ ہیں کہ جس نے آپ کو سچا مان لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہوا اعرابی نے کہا کہ میں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی اور نشانی طلب نہیں کرتا، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس اس حال میں آیا تھا کہ پشت زمین پر مجھے آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور آج آپ مجھے میرے والدین، میری آنکھوں اور اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہیں میں اپنے داخل، خارج، خفیہ و علانیہ سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب جاء في شهادة الضب لبينا صلى الله عليه وسلم، ج 6، ص 37، دار الكتب العلمية، بيروت \* دلائل النبوة لابي نعيم، ذكر الظبي والضب، ج 1، ص 376، دار النفائس، بيروت)

## بکریاں سجدے میں

**حدیث:** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے

ہیں: ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُنْبَغِي مِنْ أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَا مَرَأَةٌ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) ترجمہ: نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر اور بعض انصاری مردوں کے ساتھ انصار کے ایک باغ کے میں داخل ہوئے، باغ میں بکریاں تھیں ان بکریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان بکریوں کی نسبت ہم آپ کو سجدہ کرنے

کے زیادہ حقدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں کسی شخص کو لائق نہیں کہ دوسرے کو سجدہ کرے اور اگر یہ کسی کو لائق ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، سجود البہائم ومن ذلك سجود الغنم، ج 1، ص 379، دارالنفائس، بیروت)

## اونٹ سجدے میں

**حدیث:** ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے،

فرماتی ہیں: ((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے گروہ میں موجود تھے، ایک اونٹ آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، سجود البہائم ومن ذلك سجود الغنم، ج 1، ص 380، دارالنفائس، بیروت)

چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں

بارک اللہ مزج عالم یہی سرکار ہے

## گھوڑا زمین میں دھنس گیا

**حدیث:** حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سَرَّاقَةٌ بِنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشَمٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: ادْعُ اللَّهُ لِي وَلَا أَضْرِكْ، فَدَعَا لَهُ)) ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف جارہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ کا پیچھا کرنے لگا، آپ نے اس کے لئے دعائے ضرر فرمائی تو وہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا، پھر اس نے عرض کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کے حق میں دعا فرمائی۔

(صحیح بخاری، باب بجزرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 61، دارطوق النجاة ☆ صحیح مسلم، باب فی حدیث المہجرة، ج 4، ص 2309، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

## اچانک شیر آیا

**حدیث:** حضرت ابو عقرب سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ

لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ فَخَرَجَ فِي قَافِلَةٍ يُرِيدُ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ: كَلَّا، فَحَطُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ)) ترجمہ: ابولہب کا بیٹا لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بارگاہِ خداوندی میں) عرض کی: یا اللہ عزوجل! اس پر اپنی طرف سے ایک کتا (درندہ) مسلط فرما، پس وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کے ارادہ سے نکلا اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو اس نے کہا: مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خوف ہے، قافلے والوں نے کہا، ہرگز ایسا کچھ نہیں ہو گا، انہوں نے اپنا سامان اس کے گرد رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے بیٹھ گئے اچانک ایک شیر آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، تفسیر سورۃ ابی لہب، ج 2، ص 588، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ سیرت خلیہ، باب استخفاءہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 413، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر روح المعانی، سورۃ المائدہ، ج 3، ص 236، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر روح البیان، سورۃ تبت یداً، ج 10، ص 534، دارالفکر، بیروت)

امام حاکم اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: ”صَحِيحٌ

الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک صحیح الاسناد ہے (مگر) شیخین (امام بخاری و مسلم) نے اس کی تخریج نہیں کی۔



(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، تفسیر سورۃ ابی لہب، ج 2، ص 588، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔

(تلخیص الذہبی علی المستدرک علی الصحیحین للحاکم، تفسیر سورۃ ابی لہب، ج 2، ص 588، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## سب کے فریاد رس

**حدیث:** حضرت یعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرِ يَسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَاهُ الْبَعِيرُ جَرَّ جِرَّ فَوَضَعَ جِرَّانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَبَجَاءَهُ فَقَالَ بَعْنِيهِ فَقَالَ بَلْ نَهَبَهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لِأَهْلُ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَكَ كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقَلَّةَ الْعَلْفِ فَأَحْسَنُوا إِلَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ شَجْرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجْرَةٌ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سَرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جَنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْخَرِهِ فَقَالَ أَخْرِجِيْنِي مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ سَرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ فَسَأَلَهَا عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ)) ترجمہ: میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معجزے دیکھے، ایک یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اچانک ایک اونٹ جس پر پانی لایا جاتا تھا گزرا اور جب اس نے اللہ کے

حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے ایک آواز نکالی، یہ آواز سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا: اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہو گیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دے یہ سن کر اس مالک نے عرض کی: حضور ہم بغیر قیمت کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں مگر یہ ایسے گھرانے کا اونٹ ہے جن کا کاروبار یہی اونٹ ہے، اس پر والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تو نے کہا درست ہے لیکن اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، فرمایا اس کو لے جا اور آئندہ ایسا مت کرنا پھر ہم آگے بڑھے اور ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا دوڑتا آ رہا ہے وہ حاضر ہوا اور اس نے اپنی ٹہنیاں اور پتے حبیب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا دئے، تھوڑی دیر بعد وہ درخت واپس ہوا اور اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ہم نے درخت والا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو اجازت مل گئی پس یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا، پھر ہم آگے چلے اور ایک پانی پر سے گزرے تو ایک عورت ایک دیوانے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور ماجرا عرض کیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہنسا پکڑ کر فرمایا: اے بلا نکل جا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میرا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور ہم آگے چلے گئے، جب واپس لوٹے تو وہ عورت حاضر ہوئی اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے متعلق دریافت فرمایا: عورت بولی قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آپ کے جانے کے بعد ہم نے اس میں کوئی تکلیف

نہیں دیکھی۔

(شرح السنة للبخاری، باب علامات النبوة، ج 13، ص 296، المكتب الاسلامی، بیروت) \*مشکوٰۃ  
المصابیح، باب المعجزات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1664، المكتب الاسلامی، بیروت)

## مست اونٹ

**حدیث:** حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَرَأَيْنَا مِنْهُ عَجَبًا مِنْ ذَلِكَ، إِنَّا مَضِينَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لِي حَائِطٌ فِيهِ عَيْشِي وَعَيْشُ عِيَالِي وَلِي فِيهِ نَاضِحَانِ فَأَغْتَلَمَا عَلَيَّ فَمَنْعَانِي أَنْفُسَهُمَا وَحَائِطِي وَمَا فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَدْنُو مِنْهُمَا فَنَهَضَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: افْتَحْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمْرُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: افْتَحْ فَلَمَّا حَرَّكَ الْبَابَ أَقْبَلَا لَهَا جَلْبَةً كَحَفِيفِ الرِّيحِ فَلَمَّا انْفَرَجَ الْبَابُ وَنَظَرَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاتُهُمْ سَجَدَا فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ بَرءٌ وَسِهْمًا ثُمَّ دَفَعَهُمَا إِلَى صَاحِبِهِمَا فَقَالَ: اسْتَعْمِلْهُمَا وَأَحْسِنْ عِلْفَهُمَا فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبُهَائِمُ فَبَلَاءُ اللَّهِ عِنْدَنَا بِكَ أَحْسَنُ حِينَ هَدَانَا اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَدَنَا بِكَ مِنَ الْمَهَالِكِ أَفَلَا تَأْذَنُ لَنَا فِي السُّجُودِ لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِي إِلَّا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَوْ أَنِّي أَمَرْتُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسُّجُودِ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)) ترجمہ: بعض سفروں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم نے آپ سے کچھ حیرت انگیز افعال دیکھے، ہم ایک منزل میں اترے تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے جس میں میری اور میرے اہل و عیال کی رہائش ہے اور اسی میں میرے دو اونٹ ہیں جو مست ہو گئے ہیں اور مجھے



اپنے قریب آنے دیتے ہیں اور نہ باغ اور اس میں موجود سامان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے اور باغ کے دروازے کے پاس پہنچ کر فرمایا دروازہ کھول دو اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! یہ بڑے خطرناک ہیں، فرمایا: کہ کھول دے تو جب دروازے میں حرکت ہوئی تو وہ دونوں خفیف ہوا کی طرح دوڑے جب دروازہ کشادہ ہوا اور ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گئے پھر دونوں نے حضور کو سجدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر سے پکڑ کر ان کے مالک کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ان کو استعمال کرو اور ان کو اچھا چارہ کھلاؤ، لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں تو ہم پر آپ کے ذریعے اللہ عزوجل کا احسان ان سے بڑھ کر ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں گمراہی سے ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے صدقے ہمیں ہلاکتوں سے بچایا، کیا آپ ہمیں اجازت مرحمت نہیں فرماتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ صرف اسی ذات کو ہے جو حی لا یموت ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کو) اگر میں اس امت میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، قال الشيخ: واما السجود، ج 1، ص 383، دارالمنفاس، بیروت) ☆ خصائص کبری، ذکر المعجزات التي وقعت، ج 2، ص 63، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## بکری کے بازو نے کلام کیا

**حدیث:** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((انَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا، فَقَالَ لَهَا



أَسَمَّتْ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتْ الْيَهُودِيَّةُ: مَنْ أَخْبَرَ تَنِي هَذِهِ فِي يَدِي  
 لِلذَّرَاعِ، قَالَتْ: نَعَمْ)) ترجمہ: اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بھیجی ہوئی  
 بکری میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجی، حضور اکرم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے اس کی دستی کے گوشت کو تناول کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت  
 نے بھی کھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، اور اس  
 یہودیہ عورت کو بلا بھیجا، اور پوچھا کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے وہ بولی آپ کو  
 کس نے خبر دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے میرے ہاتھ میں موجود بازو نے  
 خبر دی ہے، اس نے کہا ہاں میں نے اس میں زہر ملایا تھا۔

(سنن ابی داؤد، باب فیمن سفیر جلا سما، ج 4، ص 73، المكتبة العصرية، بیروت \* مشکاة  
 الصابیح، باب المعجزات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1667، المكتبة الاسلامی، بیروت)

## ام معبد کی بکری

**حدیث:** خیش بن خالد (جو کہ ام معبد کے بھائی ہیں) سے روایت ہے

فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا  
 إِلَى الْمَدِينَةِ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَامِرُ بْنُ فِهْرَةَ وَدَكِيلُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ  
 اللَّيْثِيُّ مَرُّوا عَلَى خَيْمَتِي أُمَّ مَعْبِدٍ فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيشْتَرُوا مِنْهَا فَلَمْ  
 يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْقَوْمُ مَرْمَلِينَ مُسْنِتِينَ فَنَظَرَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبِدٍ؟  
 قَالَتْ: شَاةٌ خَلَفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ. قَالَ: هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَتْ: نَهَى أَجْهَدُ مِنْ  
 ذَلِكَ. قَالَ: أَتَأْذِنِينَ لِي أَنْ أَحْلِبَهَا؟ قَالَتْ: يَا بَنِي أُمَّتِ وَإُمِّي إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا  
 فَاحْلِبِيهَا. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى  
 وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا فَتَفَاجَتَ عَلَيْهِ وَرَدَتْ وَاجْتَرَّتْ فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ، الرَّهْطُ

فَحَلَبَ فِيهِ ثَجًا حَتَّىٰ عُلَاهُ الْبُهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّىٰ رَوَيْتُ وَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ حَتَّىٰ رَوَاثُمُ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدءٍ حَتَّىٰ مَلَأَ الْإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَبَايَعَهَا وَارْتَحَلُوا عَنْهَا)) ترجمہ: جب کافروں کی سازش سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جانا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان کی رہنمائی کرنے والے عبداللہ لیشی کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے نکلے، آپ ام معبد کے دو خیموں کے پاس سے گزرے تو ان سے گوشت اور کھجوریں طلب کیں تاکہ ان سے خریدیں تو ان کے پاس ان میں سے کوئی شے نہ پائی اور حال یہ تھا کہ لوگ مفلوک الحال اور قحط زدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ فرمایا اے ام معبد یہ بکری کیا ہے؟ عرض کی: جہد نے اسے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، دریافت فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ عرض کی: اس میں سے سارا دودھ نکال لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ انہوں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان! اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دودھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ام معبد کے لئے ان کی بکری کے معاملہ میں دعا فرمائی تو بکری نے حضور علیہ السلام کیلئے اپنی دونوں ٹانگیں چوڑی کر دیں اور جگالی کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن طلب کیا جو جماعت کو سیراب کر دے پس آپ نے اس میں خوب دوہا یہاں تک کہ اس پر جھاگ آگئی، پھر آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئیں اور اپنے اصحاب کو پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے پھر اور لوگوں کو پلایا بعد ازاں دوسری مرتبہ اس برتن میں دودھ دوہا یہاں تک کہ

برتن بھر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری نشانی کے طور ام معبد کے پاس چھوڑی اور انہیں اسلام پر بیعت کیا اور وہاں سے آگے سفر فرمایا۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب المعجزات، الفصل الثالث، ج 3، ص 1672، المكتب الاسلامی، بیروت ☆  
دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل السابع عشر، ج 1، ص 337، دارالنفائس، بیروت ☆ شرح السنة للبلغوی، باب جامع صفاته صلی اللہ علیہ وسلم، ج 13، ص 261، 262، المكتب الاسلامی، بیروت ☆ الاستیعاب، ام معبد الخزاعیہ، ج 4، ص 1958، 1959، دارالجيل، بیروت)

## تھام لشکر سیر ہو گیا

**حدیث:** حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((أَنَّه كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُهَاءٌ أَرْبَعٌ مِائَةً رَجُلٍ فَنَزَلْنَا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَكَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ وَرَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَنَزَلُوا إِذَا أَقْبَلْتُ عَنْزٌ تَمْشِي حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَدَّدَةً الْقَرْنَيْنِ قَالَ فَحَلَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَوَى الْجَنْدُ. وَرَوَى وَقَالَ يَا نَافِعُ امْلِكْهَا وَمَا أَرَاكَ تَمْلِكُهَا قَالَ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَاكَ تَمْلِكُهَا أَخَذْتُ عُوْدًا فَرَكَزْتُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَخَذْتُ رِبَاطًا فَرَبَطْتُ بِهِ الشَّاةَ فَاسْتَوْتَقْتُ مِنْهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَامَ النَّاسُ وَنِمْتُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِذَا الْحَبَلُ مُحْلُولٌ وَلَا شَاةَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ قُلْتُ: الشَّاةُ ذَهَبَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَافِعُ أَوْ مَا أَخْبَرْتِكَ أَنَّكَ لَا تَمْلِكُهَا إِنَّ الَّذِي جَاءَ بِهَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِهَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سو ہمراہی تھے تو ہم ایسی جگہ اترے جہاں پانی نہیں تھا گویا لوگوں پر (وہاں اترنا) دشوار ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں تو لوگ بھی اتر گئے اچانک ایک تیز سینکھوں والی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتی ہوئی



آئی راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دیا اور تمام لشکر کو سیراب کر دیا اور فرمایا: اے نافع اس بکری کو سنبھال رکھ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اسے سنبھال نہیں سکے گا، راوی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اسے سنبھال نہیں سکے گا تو میں نے ایک لکڑی لی اس کو زمین میں گاڑا اور ایک رسی لے کر بکری کو اس کے ساتھ مضبوط باندھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے لوگ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا جب میں جاگا تو دودھ موجود تھا اور بکری نہیں تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی اور عرض کی کہ بکری چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ تو اس کو سنبھال نہ سکے گا بے شک جو اس بکری کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔

(الطبیقات الکبریٰ، ذکر علامات النبوة الخ، ج 1، ص 141، دارالکتب العلمیہ، بیروت) \* دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی والعشرون، ج 1، ص 426، دارالنفائس، بیروت) \* خصائص کبریٰ، ج 2، ص 98، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## پھاڑوں اور درختوں پر حکومت

**حدیث:** امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے، فرماتے ہیں: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں موجود تھا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے، تو راستے میں جو بھی پہاڑ اور درخت ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

(جامع الترمذی، باب فی آیات نبوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 25، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم



سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں

## زمین کے مالک اللہ ورسول ہیں

عز وجل (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اعلموا أنَّ

الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)) ترجمہ: یقین جان لو کہ زمین کے مالک اللہ ورسول ہیں جد و جلا  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب اخراج الیہود من جزیرة العرب، ج 1، ص 449، قدیمی کتب  
خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، باب اجلاء الیہود من جزیرة العرب، ج 2، ص 94، قدیمی کتب  
خانہ، کراچی)

## زمین پر حکومت

**حدیث:** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((ا

نَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَّ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ  
بِالْمُشْرِكِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ. فَأَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ  
أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَجَدَهُ مَنبُودًا فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: دَفَنَاهُ  
مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ مَتَّفِقًا عَلَيْهِ)) ترجمہ: ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ  
وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، پھر اسلام سے پھر گیا (مرتد ہو گیا) اور مشرکین کے ساتھ  
مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا: بے شک زمین اسے قبول نہیں  
کرے گی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ اس زمین (ملک)  
میں گئے جہاں وہ مرتد مرا تھا، تو انہوں نے اسے بغیر دفن ہوئے زمین کے اوپر پڑا پایا،  
پوچھا: اس کا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی مرتبہ دفنایا ہے مگر زمین  
نے اسے قبول نہیں کیا، اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔

(مشكاة المصابيح، باب فی المعجزات، الفصل الاول، ج 3، ص 1655، المكتبة الاسلامی، بیروت)

## کنکریوں پر حکومت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( وَفَدَّ مُلُوكُ حَضْرَمَوْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، قَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا قَدْ خَبَأْنَا لَكَ خَبَاءً فَمَا هُوَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَاهِنِ وَإِنَّ الْكَاهِنَ وَالْكَهَانَةَ فِي النَّارِ، قَالُوا: كَيْفَ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا مِنْ حَصَى فَقَالَ: هَذَا يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَسَبَّحَ الْحَصَى فِي يَدِهِ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ )) ترجمہ: حضر موت کے کچھ سرداروں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان میں اشعث بن قیس بھی تھے اور وہ ان میں سے سب سے چھوٹے تھے، ان لوگوں نے عرض کیا: اے ابوالقاسم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! ہم نے آپ کے لیے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سبحان اللہ، ایسا تو کاهنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کاهن اور کھانت جہنم میں ہے، انہوں نے عرض کیا: ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہتھیلی میں کنکریاں پکڑیں اور فرمایا: یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنے لگیں، حضر موت کے سردار یہ دیکھ کر بولے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الخامس عشر، ج 1، ص 237، دارالنفائس، بیروت) ☆ الخصائص الكبرى، ذکر معجزاته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی انواع الجمادات، ج 2، ص 125، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## کنکریوں کی تسبیح

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( فَرَأَيْتُمْ ))

يَوْمًا جَالِسًا وَحَدَهُ، فَأَغْتَنِمَتْ خَلْوَتَهُ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنِ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَنِ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنِ يَمِينِ عُمَرَ، وَبَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُ حَصِيَّاتٍ، أَوْ قَالَ تِسْعُ حَصِيَّاتٍ، فَأَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي كَفِّهِ، فَسَبَّحَنَ حَتَّى سَمِعَتْ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فخرسَنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحَنَ حَتَّى سَمِعَتْ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فخرسَنَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَّحَنَ حَتَّى سَمِعَتْ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فخرسَنَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَبَّحَنَ حَتَّى سَمِعَتْ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فخرسَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذِهِ خِلَافَةُ النَّبِيِّ)) ترجمہ: میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہیں، میں نے تنہائی کو غنیمت جانا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور سلام کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور سلام کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سات یا نو کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی میں رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں حتیٰ کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر آپ نے ان کو پکڑا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں

رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں حتیٰ کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر آپ نے ان کو پکڑا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں، حتیٰ کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھر آپ نے ان کو پکڑا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں، حتیٰ کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح آواز سنی، پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت نبوت ہے۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في تسبيح الحصى في كف، ج 6، ص 64، 65، دارالكتب العلمية، بيروت، الخصائص الكبرى، ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم في انواع الجمادات، ج 2، ص 124، 125، دارالكتب العلمية، بيروت)

## کھجوروں پر حکومت

**حدیث:** حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ((توفیٰ اَبی وَعَلِيهِ دِينَ، فَعَرَضْتُ عَلَيَّ غُرْمَائِهِ اَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَاَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا اَنْ فِيهِ وِفَاءٌ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ اَذْنَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ اَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبُرْكَهٖ، ثُمَّ قَالَ: اِدْعُ غُرْمَاءَ كَثَ فَاَوْفِيهِمْ، فَمَا تَرَكَتُ اَحَدًا لَهُ عَلَيَّ اَبِي دِينَ اِلَّا قَضَيْتَهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسَقَا سَبْعَةَ عَجْوَةٍ، وَسِتَّةَ لَوْنٍ اَوْ سِتَّةَ عَجْوَةٍ، وَسَبْعَةَ لَوْنٍ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: اَنْتِ اَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَاَخْبَرْتَهُمَا، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْنَا اِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ اَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ)) ترجمہ: میرے والد



اس حال میں فوت ہوئے کہ ان پر قرض تھا، میں نے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ قرض کے بدلے کھجوریں لے لیں، انہوں نے انکار کیا کہ ان کے خیال میں ان سے تمام قرض ادا نہ ہوگا، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ معاملہ عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجوریں توڑ کر ان کو میدان میں رکھ لو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، پس آپ کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھے اور برکت کی دعا فرمائی، پھر مجھے حکم کیا کہ قرض خواہوں کو بلاؤ اور ان کا قرض ادا کر دو، پس میں نے اپنے والد کا تمام قرض ادا کر دیا پھر بھی ان کھجوروں میں سے تیرہ وسق کھجوریں (سات وسق عجوہ اور چھ وسق لون پنج گنیں یا چھ وسق عجوہ اور سات وسق لون) پنج گنیں، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اور سارا معاملہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ ابو بکر و عمر کو بھی اس کی خبر دو، پس میں نے ان کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم نے اسی وقت جان لیا کہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔

(صحیح بخاری، باب الصلح بین الغزواء واصحاب المیراث، ج 3، ص 187، دار طوق النجاة)

## پتھروں اور کھانے پر حکومت

**حدیث:** حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضْتُ كُدِيَّةً شَدِيدَةً، فَجَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدِيَّةٌ عَرَضْتُ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَكَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقَهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلَ فَضْرَبَهُ فَعَادَ كَثِيْبًا أَهِيْلًا، أَوْ أَهِيْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذِنْ لِي

إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِأَمْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ، وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجَبِينَ قَدْ انْكَسَرَ، وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلْتُ: طَعِيمٌ لِي، فَقَمَّ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: كَمْ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ: كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قَالَ: قُلْ لَهَا: لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِيَ، فَقَالَ: قَوْمُوا، فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: وَيْحَكَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيَخْمُرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيَقْرُبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمَّا يَزُلُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَيَبْقَى بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ)) ترجمہ: ہم یومِ خندق خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان سامنے آگئی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: خندق کھودنے کے دوران ایک سخت چٹان آگئی ہے، فرمایا: میں اترتا ہوں، پھر کھڑے ہوئے اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے تین دن سے کچھ نہیں چکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاؤڑالے کر مارا تو چٹان ریت کی طرح بکھر گئی، پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس جو اور ایک سال

سے کم عمر بکری کا بچہ ہے، میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس نے جو کو پیسا، ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ آٹا گوندھا جا چکا تھا اور ہانڈی چولہے پر تھی جو کہ پکنے کے قریب تھی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے آپ اور ایک دو اور آدمی چلیں، دریافت فرمایا کتنا ہے؟ تو میں نے (جتنا تھا اتنا) بتا دیا، فرمایا: بہت ہے اور اچھا ہے، پھر فرمایا اپنی بیوی سے کہو کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تنور سے نہ نکالے یہاں تک کہ میں آ جاؤں، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم السلام سے فرمایا کہ چلو، تو مہاجرین اور انصار ساتھ آ گئے، حضرت جابر جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہا کہ تیرے لئے خرابی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، انصار اور کئی صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، بیوی نے پوچھا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا (کہ کھانا کتنا ہے؟) میں نے کہا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر چلو اور بھیڑ مت کرنا، پھر روٹی توڑی جاتی اور اس پر گوشت ڈالا جاتا، جب ہانڈی اور تنور میں سے لے لیا جاتا تو ان کو ڈھک دیا جاتا، اور پھر اصحاب کے قریب کیا جاتا اور دوبارہ نکالا جاتا، اسی طرح روٹی توڑتے رہے اور سالن نکالتے رہے یہاں تک کہ تمام سیراب ہو گئے اور اس میں سے باقی بھی بچ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی کرو کہ لوگوں کو بھوک پہنچی ہے۔

(صحیح بخاری، باب غزوة الخندق وهي الاحزاب ج 5، ص 108، دار طوق النجاة)

**حدیث:** حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((لَمَّا حَفِرَ الْخَنْدِيقُ

رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَحَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَيَّ أَمْرًا بِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَحَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ



إِلَى جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بِهِمَّةٌ دَاجِنٌ فذَبَحْتُهَا، وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ،  
فَفَرَعْتُ إِلَى فَرَاعِي، وَقَطَعْتُهَا فِي بَرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَوَلَّيْتُ، فَقَالَتْ: أَتَفْضِحُنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَّيْتُ وَمِنْ مَعَهُ فَجَنَّتَهُ فَسَارَرْتَهُ،  
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بِهِمَّةً لَنَا وَطَحْنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا،  
فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَّيْتُ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخُنْدُقِ، إِنَّ  
جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلَّا يَهْلِكُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَّيْتُ: لَا تَنْزِلَنَّ  
بَرْمَتِكُمْ، وَلَا تَخْبِزَنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ. فَجَنَّتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَوَلَّيْتُ وَيَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَنَّتُ أَمْرًا بِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ  
الَّذِي قُلْتِ، فَأُخْرِجْتِ لِي عَجِينًا فَبَصِقَ فِيهِ وَبَارَكَهُ ثُمَّ عَمَدَ إِلَيَّ بِرْمَتِنَا فَبَصِقَ  
وَبَارَكَهُ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَأَقْدِحِي مِنْ بَرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوها  
وَهُمْ أَلْفٌ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكَوهُ وَأَنْحَرَفُوا، وَإِنَّ بَرْمَتَنَا لَتَغِطُّ  
كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لِيُخْبِزُ كَمَا هُوَ) ترجمہ: جب خندق کھودی جا رہی تھی تو  
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے دبلا محسوس کیا تو میں اپنی بیوی کے پاس  
آیا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ بے شک آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، پس اس نے ایک برتن نکالا جس میں ایک  
صاع جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا اور میری بیوی  
نے آٹا پیسا، میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہو گئی تو اس نے گوشت دیکھی میں  
ڈالا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہوئے کہا کہ مجھے رسول اللہ اور  
ان کے اصحاب کے سامنے رسوا نہ کرنا (یعنی کھانے کی مقدار کے مطابق لوگوں  
کو لانا)، پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرگوشی میں عرض کیا کہ ہم نے



ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صاع جو پیسے ہیں جو ہمارے پاس تھے، آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ چلیں (اور کھانا کھالیں)، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بلند آواز سے پکارا: اے اہل خندق تمہارے لئے جابر نے کھانا بنایا ہے، پس سب چلو! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک ہانڈی کو مت اتارنا اور آٹے کی روٹیاں مت بنانا، پھر میں آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ سب سے آگے آگے میرے گھر کی طرف آرہے تھے، جب میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تیرے لئے ایسا ایسا ہو (یعنی میں نے تو تجھے تھوڑے لوگ لانے کا کہا تھا)، آپ نے فرمایا: میں نے وہی عرض کیا تھا جو تو نے کہا تھا، پھر میری بیوی نے گوندھا ہوا آٹا نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باوگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں بھی لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر میری بیوی کو بلایا اور کہا کہ روٹیاں پکانے والیوں کو بلاؤ کہ تیرے ساتھ روٹیاں پکائیں اور ہانڈی میں سے نکال لو لیکن اس کو نیچے نہ اتارو، اور اس وقت کھانا کھانے والوں کی تعداد ایک ہزار تھی، اللہ کی قسم سب نے کھایا اور کھا کر چلے گئے اور ہماری ہانڈی ابھی اسی طرح ابل رہی تھی اور ہمارے آٹے سے روٹیاں پکائی جا رہی تھی اور وہ اسی طرح تھا۔

(صحیح بخاری، باب غزوة الخندق وهي الاحزاب، ج 5، ص 108، دار طوق النجاة) ☆ (صحیح مسلم، باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك، ج 3، ص 1610، دار احیاء التراث العربی)

## بکری زندہ ہوگئی

**حدیث:** ایک روایت میں اتنا زائد ہے: ((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَنْهُ وَنَحْوَ يَقُولُ: كُلُوا وَلَا تَكْسِرُوا عِظْمًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسْطِ الْجَفْنَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا أَنِّي أَرَى شَفْتَيْهِ تَتَحَرَّكَانِ فَإِذَا الشَّاةُ قَدْ قَامَتْ تَنْفِضُ أُذُنَيْهَا فَقَالَ لِي: خَذْ شَاتِكَ يَا جَابِرُ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَمَضَيْتُ، وَإِنَّهَا لَتُنَازِعُنِي أُذُنَيْهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا الْبَيْتَ، فَقَالَتْ لِي الْمَرْأَةُ: مَا هَذِهِ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ شَاتِنَا الَّتِي ذَبَحْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعَا اللَّهُ فَأَحْيَاهَا، قَالَتْ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما رہے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو پھر آپ نے برتن کے درمیان میں ہڈیاں جمع فرمائیں، ان پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں سن نہ سکا ہاں میں نے آپ کے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا تو بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری پکڑ لو اللہ عزوجل تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے لہذا میں نے اسے لیا اور اس حال میں چل دیا کہ اس کے کان مجھ سے ٹکرا رہے تھے حتیٰ کہ میں گھرا گیا، مجھے میری بیوی نے کہا کہ اے جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بخدا یہ وہی بکری ہے جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذبح کیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا: میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، القول فیما وتی عیسیٰ علیہ السلام، ج 1، ص 616، دارالنفائس، بیروت) ☆  
الخصائص الكبرى، ذکر معجزاته فی ضروب الحيوانات، ج 2، ص 112، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمایا

علامہ عمر بن احمد النخري پوتی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مزید یہ بھی ہے

کہ ((فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحياتة فاحياهما الله تعالى فقاما  
واكلا معه صلی اللہ علیہ وسلم)) ترجمہ: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں کے زندہ ہونے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ  
فرمادیا، وہ دونوں اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔

(شرح خربوتی علی البرود، ص 82، نور محمد اصح المطالع کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

دل کو بے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور

اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں

### بچی کو زندہ فرمادیا

**حدیث:** حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((

أتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له أنه طرَحَ بُنْيَةً لَهُ فِي وَادِي  
كَذَا فَانطَلَقَ مَعَهُ إِلَى الْوَادِي وَنَادَاهَا بِاسْمِهَا يَا فُلَانَةَ أَجِيبِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَخَرَجَتْ  
وَهِيَ تَقُولُ: لَبِيكُ وَسَعْدِيكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ أَبَوَيْكَ قَدْ أَسْلَمَا، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ  
أُرَدَّكَ عَلَيْهِمَا قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِمَا وَجَدْتُ اللَّهَ خَيْرًا لِي مِنْهُمَا)) ترجمہ:  
ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا کہ اس نے اپنی چھوٹی بچی  
کو فلاں وادی میں پھینکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی کی  
طرف تشریف لے گئے اور آپ نے اس بچی کا نام لے پکارا: اے فلانہ! اللہ کے اذن  
سے میرا جواب دے، وہ بچی لبیک و سعديك کہتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو  
گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تیرے والدین مسلمان ہو چکے ہیں اگر تو  
چاہے تو میں تجھے ان کے پاس لوٹا دوں، وہ بولی: مجھے ان میں کوئی حاجت نہیں  
نے اپنے رب کے ہاں ان سے زیادہ بھلائی پائی ہے۔

(الشفاب تعریف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 614، دار الفیحاء، عمان)

لب زلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر  
مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے

### پھاڑوں پر حکومت

**حدیث:** حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ وَقَالَ: اسْكُنْ أَحَدًا أَظَنَّهُ ضَرْبَهُ بِرِجْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم (سب) احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ پر پاؤں مبارک مار کر فرمایا: اے حد! ٹھہر جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی، صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔

(صحیح بخاری، باب مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 15، دار طوق النجاة) ☆ (صحیح بخاری، کتاب المناقب، ج 1، ص 519، قدیمی کتب خان، کراچی)

ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا  
رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں

### درختوں پر حکومت

**حدیث:** حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفِيحًا، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَأَبَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدَاهُمَا، فَأَخَذَ بَعْضِنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ يَا دِينِ اللَّهِ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، الَّذِي يُصَابِعُ قَائِدَهُ حَتَّى آتِيَ الشَّجَرَةَ الْآخَرَى، فَأَخَذَ



بُغْصِنٍ مِنْ أُغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ يَا ذُنَّ اللَّهِ فَاُنْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمُنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا، لَأَمْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمْعَهُمَا فَقَالَ: التَّمِيمَا عَلَيَّ يَا ذُنَّ اللَّهِ فَالتَّامَتْ، قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْسِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَتَّبِعِدْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَّبِعِدْ فَجَلَسْتُ أَحَدِثَ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَيَّ سَاقٍ)) ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، میں چمڑے کے ایک تھیلے میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ کے لئے کوئی چیز نظر نہ آئی، وادی کے کنارے دو درخت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا: اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر، وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہو گیا جس کی ناک میں نیکیل ہو اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل کے اذن سے میری اطاعت کر، وہ اسی درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا: اللہ عزوجل کے اذن سے تم دونوں جڑ جاؤ، پس وہ دونوں درخت جڑ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس خیال سے نکلا اور اس جگہ سے ہٹ گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرب کو محسوس

نہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے او جھل ہو گئے۔ میں بیٹھا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ الگ ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا ہے۔

(صحیح مسلم، باب حدیث جابر الطویل الخ، ج 4، ص 2306، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

## درخت قدموں میں

**حدیث:** حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: إِلَى أَهْلِي قَالَ: هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّلْمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُذُ الْأَرْضِ خَدًّا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِتِهَا)) ترجمہ: ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک اعرابی سامنے آیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بولا اپنے اہل کی طرف جانے کا، آپ نے فرمایا: کیا تجھے بھلائی کی بات میں رغبت ہے؟ اس نے کہا: وہ کیا ہے، فرمایا: تو گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس نے کہا: جو آپ نے فرمایا اس پر کون گواہ ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ درخت گواہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ میدان کے کنارے پر تھا، پس وہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے آکھڑا

ہوا، حضور نے تین بار اس سے گواہی طلب کی، تو اس نے تین بار گواہی دی جس طرح آپ نے فرمایا تھا، پھر وہ درخت اپنی جگہ لوٹ گیا۔

(سنن دارمی، باب ما اکرم اللہ تعالیٰ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 166، دارالمغنی للنشر والتوزیع، غرب، مشکوٰۃ المصابیح، باب فی المعجزات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1666، المكتب الاسلامی، بیروت)

اے بلا بے خردی کفار، رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار  
کہ گواہی ہو اگر اس کو درکار بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں  
**درخت کا آنا اور جانا**

**حَدِیث:** حضرت بَرِیْدَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَحَ آيَةً فَقَالَ لَهُ: قُلْ لِيَتَلَّكَ الشَّجَرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوكِ قَالَ: فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقَهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ تَجْرُ عُرُوقَهَا مَغْبِرَةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَرُّهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنبِتِهَا. فَرَجَعَتْ فَدَلَّتْ عُرُوقَهَا فَاسْتَوَتْ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: ائْذَنْ لِي أَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقْبَلَ يَدَيْكَ وَرَجُلَيْكَ. فَأَذَنْ لَهُ. )) ترجمہ: ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا: اس درخت سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درخت اپنے دائیں، بائیں اور آگے، پیچھے جھکا تو اس کی جڑیں ٹوٹ گئیں پھر وہ زمین پھاڑتا، اپنی جڑیں کھینچتا اور غبار اڑاتا ہوا حاضر بارگاہ رسالت ہوا سارا تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا



”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اعرابی نے عرض کی: اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے، تو درخت واپس چلا گیا اس کی جڑیں اپنی حالت پہ آگئیں اور زمین برابر ہوگئی، اعرابی نے عرض کی: مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کو سجدہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ (اللہ کے سوا) کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اعرابی نے عرض کی: مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الفصل السادس عشر في كلام الشجر، ج 1، ص 574، دار الفیحاء، عمان)

## کھجور کے خوشہ پر حکومت

**حدیث:** ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

((جاء أعرابی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوتك هذا العدق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أرجع فعاد، فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح)) ترجمہ: ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں کیسے جان لوں کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا: اگر میں کھجور کے اس درخت کے خوشے کو بلاؤں تو کیا تو اس بات کی شہادت دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ کر گر گیا، پھر آپ نے اسے کہا کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جا، تو وہ واپس چلا گیا، (یہ دیکھ کر) اعرابی ایمان لے آیا۔ یہ حدیث پاک حسن غریب صحیح ہے۔

(جامع ترمذی، ج 5، ص 594، مصطفیٰ البابی، مصر)



## کھجور کے تنے پر حکومت

**حدیث:** منبر بننے سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صَنَعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتْ تُنْشِقُ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَيْنًا أُنَيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ)) ترجمہ: جب جمعہ کا دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر رونق افروز ہوئے، تو جس کھجور کے تنے کے پاس آپ خطبہ دیتے تھے اس نے چیخنا شروع کر دیا حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا تو وہ ایسے بچے کی طرح کراہنے لگا جسے چپ کرایا جائے، تا آنکہ اس نے قرار پکڑ لیا۔

(صحیح بخاری، باب النجار، ج 3، ص 61، دار طوق النجاة)

## مالک جنت نے جنت کا اختیار دے دیا

**حدیث:** حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جَذَعٍ فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا فَارَقَ الْجَذَعُ وَعَمِدَ إِلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صَنَعَ لَهُ جَزَعُ الْجَذَعِ فَحَنَ كَمَا تَحْنُ النَّاقَةُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اخْتَرْتُ أَنْ أُغْرَسَكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَتَكُونُ كَمَا كُنْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُغْرَسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَيَحْسَنَ نَبْتُكَ، وَتُثْمِرَ فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَخْلِكَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ نَعَمْ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَارَ أَنْ أُغْرَسَ فِي الْجَنَّةِ)) ترجمہ: نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک

کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک منبر بنایا گیا جب آپ نے اس منبر کا قصد فرمایا اس تنے نے آہ و فغاں شروع کر دی اور یوں رونے لگا جیسے اونٹنی روتی ہے تو نبی رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا تجھے اختیار ہے چاہے تو تجھے اسی جگہ اگا دوں جہاں تو تھا اور اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت میں اگا دوں تو جنت کی نہروں اور چشموں کا پانی پئے اور تیرا پھل خدا تعالیٰ کے دوست کھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاں کہتے سنا، پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار ہوا تو فرمایا کہ اس نے جنت میں اگنا پسند کیا ہے۔

(سنن دارمی، باب ما اکرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 178، دارالمغنی للنشر والتوزیع، عرب، خصائص کبریٰ، ذکر معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 126، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## درخت اور پتھر سجدے میں

**حدیث:** حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((خَرَجَ أَبُو

طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَوَّلُوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ: وَهُمْ يَحِلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ: وَمَا عَلِمُكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ شَرَفْتُمْ مِنَ الْعَقْبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا تَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيِّ وَإِنِّي أَعْرَفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كَتِفِهِ مِثْلَ التَّفَاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ثُمَّ

أَتَاهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَعِيَّةِ الْبَابِلِ قَالَ: أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَقْبِلْ  
 وَعَلَيْهِ غِمَامَةٌ تَظِلُّهُ قَالَ: انظُرُوا إِلَيَّ غِمَامَةٌ تَظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ  
 قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فِيءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فِيءِ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ قَالَ: انظُرُوا  
 إِلَيَّ فِيءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا تَذْهَبُوا  
 بِهِ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَتَقَتُّوهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِسَبْعَةِ  
 نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا فَإِنَّ هَذَا  
 النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ وَإِنَّا بَعْثْنَا إِلَى  
 طَرِيقِهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُمُ الرَّاهِبُ: هَلْ خَلَفْتُمْ خَلْفَكُمْ أَحَدًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟  
 قَالُوا: لَا، قَالُوا: إِنَّمَا أَخْبَرْنَا خَبْرَةً فَبَعْثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَهُ  
 اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَبَايَعُوهُ  
 فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ: فَاتَاهُمُ الرَّاهِبُ فَقَالَ: أَنْشِدْكُمْ اللَّهُ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟  
 قَالَ أَبُو طَالِبٍ: فَلَمْ يَزَلْ يَنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، بِلَالًا وَزَوْدَةً  
 الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ)) ترجمہ: ابوطالب ملک شام کے سفر پر نکلے تو شیوخ  
 قریش کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہوئے، جب یہ لوگ بحیرا  
 راہب کے پاس پہنچے، پڑاؤ کیا پھر کوچ کرنے کے لئے اپنی سواریاں موڑیں تو راہب  
 ان کے پاس آگیا حالانکہ اس سے قبل بھی یہ لوگ یہاں سے گزرتے تھے لیکن راہب  
 کبھی ان کے پاس نہ آیا تھا اور نہ ہی وہ ان کی پروا کرتا تھا، راوی کہتے ہیں: یہ لوگ  
 اپنی سواریوں سے اتر گئے، راہب سب کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس  
 حاضر ہوا اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر بولا: یہ ہیں سارے جہانوں کے سردار، یہ ہیں  
 رب العالمین کے رسول، ان کو اللہ تعالیٰ سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث



فرمائے گا، یہ سن کر قریش کے شیوخ نے پوچھا اے بھیرا تجھے اس کا علم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جب تم گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا سارے درخت اور سارے پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے اور یہ چیزیں صرف نبیوں کو ہی سجدہ کرتی ہیں نیز میں نے ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچے موجود سب کی مانند مہر نبوت سے ان کو پہچانا ہے پھر وہ راہب واپس گیا اور کھانا تیار کر کے ان کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو جھنڈ میں تھے، راہب نے کہا ان کی طرف کسی کو بلانے بھیجو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ کے سر پہ سایہ کئے ہوئے تھا، راہب نے لوگوں سے کہا: ان کی طرف دیکھو بادل ان پہ سایہ کئے ہوئے ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قریب ہوئے تو آپ نے ان کو درخت کے سائے میں بیٹھے پایا اب آپ تشریف فرما ہوئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف مائل ہو گیا، راہب نے لوگوں سے کہا: دیکھو! سایہ ان کی طرف مائل ہو گیا ہے، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے تھے اور وہ راہب ان لوگوں کو قسم دے رہا تھا کہ تم انہیں روم کی طرف مت لے جاؤ ورنہ اہل روم نے انہیں دیکھ کر ان کی صفات سے پہچان لیا تو ان کو قتل کر دیں گے، تو راہب نے روم سے آنے والے سات آدمیوں کا گروہ دیکھا اور ان کا استقبال کیا پھر ان سے پوچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لائی؟ وہ بولے: اس ماہ میں یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں پس ہر راستے پر لوگ بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اس راہ پہ بھیجا گیا ہے، راہب نے ان سے کہا: کیا تم اپنے سے بہتر کسی شخص کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ بولے: نہیں، ہمیں نبی کے ظاہر ہونے کی خبر ملی تو ہم تیرے اس راستے پر بھیجے گئے، راہب نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر دے تو لوگوں میں سے کوئی اسے رد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، راہب



بولاً، پھر اس نبی کی بیعت کر لو، تو انہوں نے حضور کی بیعت کی اور آپ کے پاس ٹھہر گئے، راوی کہتے ہیں پھر راہب قوم کے پاس آیا اور بولا: تمہارا ولی (سردار) کون ہے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں (کہ انہیں روم کی طرف مت لے جانا)، ابوطالب کہتے ہیں وہ ہمیں برابر قسم دیتا رہا یہاں تک کہ ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، اور راہب نے روٹی اور زیتون ز اوراہ کے طور پہ آپ کو پیش کیا۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ومن کتاب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 672، دارالکتب العلمیہ، بیروت) جامع الترمذی، باب ماجاء بدء نبوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 19، دارالغرب الاسلامی، بیروت) مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، ص 1663، المكتب الاسلامی، بیروت)

امام حاکم فرماتے ہیں: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" ترجمہ: یہ حدیث پاک شیخین (بخاری و مسلم) کی شرط پر صحیح ہے، انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ومن کتاب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 672، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## لکڑی تلوار بن گئی

**حدیث:** حضرت عکاشہ بن محضن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((انقطع سيفي في يوم بدر، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين - فلم يزل عنده حتى هلك)) ترجمہ: غزوہ بدر کے دن میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی عطا فرمائی تو وہ سفید رنگ کی لمبی تلوار بن گئی، جس کے ساتھ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی۔ وہ تلوار مرتے دم

تک حضرت عکاشہ کے پاس رہی۔

(مغازی الواقدی، بدرالقتال، ج 1، ص 93، دارالاعلمی، بیروت ☆ دلائل النبوة للبيهقي، باب ما ذكر في المغازي الخ، ج 3، ص 99، دارالكتب العلمية، بيروت ☆ الخصائص الكبرى، ذكر المعجزات الواقعة في الغزوات، ج 1، ص 338، دارالكتب العلمية، بيروت) .

## سردی پر حکومت

**حدیث:** حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے

ہیں: (( اذنت الصبح في ليلة باردة فلم يأت أحد ثم اذنت فلم يأت أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنهم يا بلال؟ قال قلت: كبدتهم البرد بأبي أنت وأمي فقال: اللهم اكسر عنهم البرد قال بلال: فلقد رأيتهم يتروحون ))  
ترجمہ: میں نے ایک سردرات میں صبح کی اذان دی تو کوئی (نماز کے لئے) نہ آیا، میں نے پھر اذان کہی، پھر کوئی نہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ٹھنڈ نے انہیں مشقت میں ڈال دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ”یا اللہ ان سے سردی کو ختم کر دے“ حضرت بلال کہتے ہیں (اس دعا کے بعد) میں نے دیکھا کہ لوگ پنکھے سے ہوالے رہے ہیں۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ما ذكر في المغازي الخ، ج 3، ص 99، دارالكتب العلمية، بيروت ☆ دلائل النبوة لابی نعیم، دعاء و باذھاب البرد، ج 1، ص 464، دارالنفائس، بیروت ☆ مجمع الزوائد، باب التشديد في ترك الجماعة، ج 2، ص 41، مكتبة القدسي، القاهرة ☆ سيرت حلبيه، باب ذكر نبذ من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 3، ص 395، دارالكتب العلمية، بيروت ☆ الخصائص الكبرى، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 121، دارالكتب العلمية، بيروت)

## گرمی سردی پر حکومت

**حدیث:** حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( انہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَمَّ دَعَا لَهُ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ، قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: فَمَا وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَا حَرًّا وَلَا بُرْدًا، أَيْ فَكَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ الْقَبَاءَ الْمَحْشُوَّ الثَّخِينِ، وَيَلْبَسُ فِي الْبُرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينَ الْخَفِيفِينَ))  
 ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی ”یا اللہ! اسے سردی اور گرمی سے مستغنی فرمادے“ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وجہ (الذریعہ) فرماتے ہیں اس روز کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی نہ سردی، یعنی آپ سخت گرمی میں موٹی قبا پہن لیا کرتے اور سخت سردی میں دو خفیف سے کپڑے پہن لیا کرتے۔

(سیرت حلبیہ، غزوہ خیبر، ج 3، ص 53، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ دلائل النبوة لابی نعیم، دعاءہ باذیاب البرد، ج 1، ص 463، دارالنفائس، بیروت) ☆ دلائل النبوة للبیہقی، باب ماجاء فی بعث السرایالی حصون، ج 4، ص 212، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## ابوطالب کے عذاب میں کمی کردی

**حدیث:** سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع دیا خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا حضور کیلئے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، فرمایا ((نَعَمْ، وَجَدْتُهُ فِي غَمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَيَّ ضَحْضَاحًا)) ترجمہ: جی ہاں! میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا پایا تو اسے میں نے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔

(صحیح البخاری، باب بنیان الکعبہ، قصہ ابی طالب، ج 1، ص 548، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب، ج 1، ص 115، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن عباس رضی اللہ عنہ، ج 1، ص 206، 207، المکتب الاسلامی، بیروت)

ایک اور روایت میں ہے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ((هَلْ نَفَعْتُ أَبَا طَالِبٍ)) ترجمہ: حضور نے ابوطالب کو کچھ نفع دیا؟ فرمایا

((نَعَمْ، أَخْرَجْتَهُ مِنْ غَمْرَةٍ جَهَنَّمَ إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْهَا)) ترجمہ: جی ہاں! میں اسے دوزخ کے غرق سے پاؤں تک کی آگ میں نکال لایا۔

(مسند ابی یعلیٰ، عن جابر رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 399، مؤسسة علوم القرآن، بیروت) ☆ (الکامل لابن عدی، ترجمہ اسمعیل بن مجاہد، ج 1، ص 313، دارالفکر، بیروت) ☆ (تجمع الزوائد، کتاب صفة النار، تفاوت اہل فی العذاب، ج 10، ص 395، دارالکتب العربی، بیروت)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وہابی صاحبو! مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک کافر کے باب میں فرما رہے ہیں کہ اسے میں نے غرق آتش سے کھینچ لیا اسے میں نکال لایا۔ اور تم حضور کو مسلمانوں کے لیے بھی دافع البلاء نہیں مانتے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف، قدرتیں، اختیار دیکھیں، دنیا کیا بلا ہے آخرت کے کارخانوں کی باگیں انکے ہاتھ میں سپرد ہوئی ہیں۔ ورنہ بغیر اللہ عزوجل کے مازون و مختار کئے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے قیدی کی سزا بدل دے، جس عذاب میں اسے رکھا ہو وہاں سے اسے نکال لے، یہ وہی پیارا ہے جس کی عزت و جاہت جس کی محبوبیت نے دو جہاں کے اختیارات اسے دلا دیئے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 476، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

## تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا

**حدیث:** حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی

ہیں: ((قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى فَخَّارَةٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطَشِي فَشَرِبْتُ مِنْ فِي الْفَخَّارَةِ وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ قَوْمِي إِلَى تِلْكَ الْفَخَّارَةِ فَأَهْرِيقِي مَا فِيهَا قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى



بَدَتْ نَوَاجِذَهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَا يَفْجَعُ بَطْنُكَ بَعْدَهُ أَبَدًا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر کے کونے میں رکھے ہوئے پکی مٹی کے ایک برتن کی طرف اٹھے، آپ نے اس میں بول مبارک فرمایا، پھر میں اٹھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی برتن میں جو کچھ تھا میں نے پی لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ایمن اس برتن کی طرف جاؤ اور اس میں جو کچھ ہے بہا دو، میں نے عرض کی: بخدا میں نے تو اسے پی لیا، راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں اور فرمایا: تجھے کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر ام ایمن مولاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 4، ص 70، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ دلائل النبوة لابی نعیم، بولہ وغائطہ، ج 1، ص 444، دارالسنفانس، بیروت) ☆ مواہب اللدنیہ، الفصل الاول فی کمال خلقته وجمال صورته، ج 2، ص 93، المكتبة التوفیقیہ، مصر)

سیرت حلبیہ میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((لاتلج النار بطنک)) ترجمہ: تیرے پیٹ کو آگ نہیں چھوئے گی۔

(سیرت حلبیہ، غزوه احد، ج 2، ص 319، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## عزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی

**حدیث:** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُسِبُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا الْكِرَامَةَ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَي رَيْسِي)) ترجمہ: میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع

ہوں جب وہ محبوبس ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے، عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ ہوگا، اور میں تمام بنی آدم سے زیادہ اپنے رب کے نزدیک عزت والا ہوں۔

(سنن الدارمی، باب ما اعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الفضل، ج 1، ص 30، دارالمحاسن للطباعة، القاہرہ) ☆ (مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ص 514، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ جامع ترمذی، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 9، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی

دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”والحمد لله رب العالمین، شکر اس کریم کا جس نے عزت دینا اس دن کے کاموں کا اختیار پیارے رؤف ورحیم کے ہاتھ میں رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لئے شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”دراد روز ظاہر گردد کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب ملک یوم الدین ست روز دروز او ست و حکم حکم او بحکم رب العالمین“ اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک یوم دین کے نائب ہیں۔ وہ دن آپ کا ہوگا اور اس میں رب العالمین کے حکم سے آپ کا حکم چلے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 431، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

**رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاشر ہیں**

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا

مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي

يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَيَّ قَدَمِي) ترجمہ: بیشک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی یعنی کفر و شرک کا مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر یعنی مخلوق کو حشر دینے والا ہوں کہ میرے قدموں پر تمام لوگوں کا حشر ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة الحنف، ج 2، ص 727، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆  
 (صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی اسمائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 2، ص 261، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ (الشمائل مع سنن الترمذی، باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 5، ص 572، حدیث دار الفکر، بیروت) ☆ (مسند احمد بن حنبل، عن جبیر بن مطعم، ج 4، ص 84، المكتبة الاسلامی، بیروت) ☆ (بوطا لامام مائلک، ماجاء فی اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص 737، سیر محمد کتب خانہ، کراچی) ☆ (الطبقات الکبری، ذکر اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 105، دار صادر، بیروت) ☆ (المستدرک للحاکم، کتاب التاریخ، ذکر اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 2، ص 604، دار الفکر، بیروت) ☆  
 (دلائل النبوة للبینہتی، باب ذکر اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 152، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اس نام پاک حاشر کی اسناد کو وہابی صاحب بتائیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حشر دینے والا ہوں میں اپنے قدموں پر خلائق کو حشر دوں گا۔ تم نے تو قرآن مجید سے یہ سنا ہوگا کہ نشر کرنا حشر دینا خدا کی شان ہے، یہاں بھی تمہارا امام الطائفہ یہی کہے گا کہ نبی نے اپنے آپ کو خدا کی شان میں ملا دیا، خدا کی شان، تم مدعیان علم و ایمان ابھی خدا کی شان ہی کے معنی نہ سمجھے، نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں، تو خدا کی بعض شانیں ضرور نبی کی شان ہیں کہ موجبہ کلیہ کو اس کا عکس موجبہ جزئیہ لازم ہے، ہاں وہ شان جس سے خدائی لازم آئے نبی کے لیے نہیں ہو سکتی، دفع بلا یا سماع ندا یا فریاد کو پہنچنا یا مراد کا دینا وغیرہ امور نزاعیہ کہ بعطائے رحمانی و وساطت فیض ربانی

سے مانے جاتے ہیں لزوم الوہیت سے کیا تعلق رکھتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 473، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

## جنتی خوشہ کو پکڑ لیا

**حدیث:** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ((خَسَفَتِ

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْناكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْناكَ تَكَعَّكُغْتَ، قَالَ: إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُ مِنْهَا مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں سورج کو گہن لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا، مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے ایک خوشہ پکڑا، اگر میں اس کو لے آتا تو تم اسے دنیا کے باقی رہنے تک کھاتے رہتے۔

(صحیح بخاری، باب رفع البصر الى الامام في السلوة، ج 1، ص 150، دار طوق النجاة)

## تم سفینہ ہو

**حدیث:** حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ((انه قيل له ما

اسمك قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قيل ولم قال خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي أبسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم فحملوه علي فقال أحبل فإنما أنت سفينة فلو حملت من يومئذ وقر أو بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي)) ترجمہ: ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم



نے میرا نام سفینہ رکھا ہے، پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ (کسی کام سے) نکلے تو ان کا سامان ان پر گراں ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا کپڑا بچھاؤ، میں نے بچھایا تو ان سب نے اپنا سامان اس میں رکھ دیا پھر اسے مجھ پہ لا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھاؤ کہ تم سفینہ ہو، پس اس روز سے میں بھاری بوجھ اٹھاؤں یا ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ یا سات اونٹ (کا وزن) اٹھاؤں، مجھ پر گراں نہیں۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی عبد الرحمن سفینہ، ج 36، ص 256، مؤسسة الرسالہ، بیروت) ☆  
دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في معجزة اخرى، ج 6، ص 47، دارالكتب العلمية، بیروت) ☆  
المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر سفینة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 701، دارالكتب العلمية، بیروت) ☆ الخصائص الكبرى، ذکر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 121، دارالكتب العلمية، بیروت)

امام حاکم نے حدیث پاک کے تحت لکھا: ”صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ“  
ترجمہ: یہ حدیث پاک صحیح الاسناد ہے (مگر) امام بخاری و مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر سفینة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 701، دارالكتب العلمية، بیروت)

امام ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(تلخیص الذہبی علی المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر سفینة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 701، دارالكتب العلمية، بیروت)

## تجھے استطاعت نہ ہو

**حدیث:** حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: (( اَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ: لَا أُسْطِيعُ، قَالَ: لَا أُسْطِيعُ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ، قَالَ: ))

فَمَا رَفَعَهَا إِلَيَّ فِيهِ)) ترجمہ: ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے (براہ تکبر) کہا کہ میں اس کی استطاعت (طاقت) نہیں رکھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: تجھے اس کی استطاعت ہی نہ ہو، اسے تکبر ہی نے روکا تھا، راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کا (دایاں) ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔

(صحیح مسلم، باب آداب الطعام، ج 3، ص 1599، دار احیاء التراث العربی، بیروت ☆ مسند احمد بن حنبل، حدیث سلمہ بن اکوع، ج 27، ص 25، مؤسسة الرسالة، بیروت ☆ مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، ص 1657، المکتب الاسلامی، بیروت)

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

**آج رات ہوا چلے گی**

**حدیث:** رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((سَتَهْبُ عَلَيْكُمُ

اللَّيْلَةُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُشَدِّ عِقَالَهُ

فَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلِي طِيٍّ))

ترجمہ: آج رات بہت شدید ہوا چلے گی پس تم میں سے کوئی بھی اس رات میں نہ اٹھے

اور جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کی رسی کو باندھ دے پھر تیز ہوا چلی تو ایک شخص اٹھا

، ہوانے اسے اٹھا لیا حتیٰ کہ کوہ طی پر گرایا۔

(صحیح مسلم، باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 4، ص 1785، دار احیاء التراث

العربی، بیروت ☆ مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، ص 1662، المکتب الاسلامی، بیروت)

**تو ایسا ہی ہوجا**

**حدیث:** حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،

فرماتے ہیں: ((كَانَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَجْلِسُ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ)) ترجمہ: حکیم بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو وہ اپنا منہ ٹیڑھا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: ایسے ہی ہو جا، تو اس کا منہ ہمیشہ ٹیڑھا ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، من کتاب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 678، دار کتب العلمیہ، بیروت) دلایل النبوة للبیہقی، باب ماجاء فی دعاءہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 239، دارالکتب العلمیہ، بیروت) الخصائص الکبریٰ، ذکر معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 132، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام حاکم اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک صحیح الاسناد ہے، اور بخاری و مسلم نے اسے تخریج نہیں کیا۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، من کتاب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 678، دار کتب العلمیہ، بیروت)

## جب ابھی کوئی شے سنی حفظ کرلی

**حدیث:** حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے، فرماتے ہیں: ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءَ حِفْظِي لِلْقُرْآنِ قَالَ: ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ أَدْنُ مِنِّي يَا عُمَانُ. ثُمَّ تَقَلَّ فِي فِئِي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيْ فَقَالَ: يَا شَيْطَانُ اخْرِجْ مِنْ صَدْرِ عُمَانَ. قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا حَفِظْتُهُ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حفظ قرآن کے بھولنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، (اور فرمایا) اے عثمان میرے قریب

آؤ، پھر حضور نے میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے کندھوں کے درمیان پائی، پھر آپ نے فرمایا: اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا، حضرت عثمان کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جب بھی کوئی شے سنی حفظ کر لی۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، باب دعاء بطرد الشیطان، ج 1، ص 466، دار الفرائس، بیروت) ☆ دلائل النبوة للسیہقی، باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 307، دار الکتب العلمیہ، بیروت) ☆ مجمع الزوائد، باب ادب الحيوانات معہ، ج 9، ص 3، مکتبۃ القدسی، القاہرہ) ☆ الخصائص الکبریٰ، ذکر المعجزات التي وقعت الخ، ج 2، ص 24، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

## مرتبے دم تک شکایت نہ ہوئی

**حدیث:** حضرت جرہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ: ((انہ أتى النبیَّ

صلى الله عليه وسلم وبين يديه طعام، فأدنى جرهد يده الشمال ليأكل، وكانت اليمنى مصابة، فقال: كل باليمين، فقال: يا رسول الله إنها مصابة، فنفت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شكى حتى مات)) ترجمہ: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا، حضرت جرہد کے داہنے ہاتھ میں مرض تھا اس لئے انہوں نے کھانے کے لئے بائیں ہاتھ قریب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: داہنے ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم فرمایا تو تا مرگ ان کو اس ہاتھ سے شکایت نہ ہوئی۔

(المعجم الکبیر، جریبہ الاسلامی، ج 2، ص 273، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ) ☆ الخصائص الکبریٰ، ذکر معجزاته فی ضروب الحيوانات، ج 2، ص 117، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

## پاگل عقل مند ہو گیا

**حدیث:** حضرت وازع سے مروی ہے کہ: ((انه انطلق إلى رسول الله



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمَّحَّ بِأَبْنٍ لَهُ مَجْنُونٌ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَفْدِ أَحَدٌ  
 بَعْدَ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمَّحَّ أَعْقَلَ مِنْهُ)) ترجمہ: آپ اپنے مجنون (پاگل) بیٹے  
 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے  
 چہرے پہ دست مبارک پھیرا اور اس کے لئے دعا فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا  
 کے بعد وفد میں اس لڑکے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں تھا۔

الخصائص الكبرى بحوالہ ابی نعیم، ذکر معجزاته فی ضروب الحيوانات، ج 2، ص 117، دارالکتب  
 علمیہ، بیروت)

## سینے پر ہاتھ پھیرا تو

**حدیث:** حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی

ہے کہ ((إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بَوَلَدَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمَّحَّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ، إِنَّ بِهِ لَمَمًا وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا، فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمَّحَّ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَتَمَّحَّ ثَعَّةٌ، فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الْجُرُودِ  
 (سُودٌ، فَشَفِيَ)) ترجمہ: ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس  
 لائی اور بولی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اسے جن کا اثر ہے، ہمارے کھانے کے وقت  
 اس سے پکڑ لیتا ہے اور ہمارے کھانے کو فاسد کر دیتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ  
 عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور اس  
 کے لئے دعا کی تو اس نے ایک تے کی اور اس کے منہ سے سیاہ رنگ کے چھوٹے کتے  
 (مانند کوئی چیز نکلی، تو اسے شفا ہو گئی۔

سند احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، ج 4، ص 37، مؤسسة الرسالة، بیروت \* اسنی  
 سی، باب ما اکرم اللہ تعالیٰ بہ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 170، دارالمغنی للنشر  
 توزیع، عرب \* مشکوٰۃ الصحیح، باب المعجزات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1665، المكتب  
 الاسلامی، بیروت)

## شفا، جوانی، نیکی اور شہادت

**حدیث:** حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے: ((ان امرأة جاءت

بأبن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا ابني وقد أتى عليه كذا

وكذا وهو كما ترى فادع الله أن يميتته فقال أدع الله أن يشفيه ويشب

ويكون رجلاً صالحاً فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة فدعا الله

فشفاه الله وشب وكان رجلاً صالحاً فقاتل في سبيل الله فقتل)) ترجمہ: ایک

عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر لائی اور عرض کرنے لگی

جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے اس بیٹے کو فلاں فلاں مرض ہے، آپ اللہ

تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اسے موت دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ

تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اسے شفا عطا فرمائے، جوانی عطا کرے اور یہ ایک نیک شخص

ہو، راہ خدا میں جہاد کر کے شہادت پائے اور جنت میں داخل ہو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، جوانی عطا کی اور وہ ایک

نیک شخص ہوا، اس نے راہ خدا میں جہاد کیا اور شہادت پائی۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في دعاء، ج 6، ص 182، دارالكتب العلمية، بيروت) ☆ الخصائص

الكبرى، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 117، دارالكتب العلمية، بيروت)

امام بیہقی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: ”ہذا مرسل جيد“

ترجمہ: یہ جيد مرسل ہے۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في دعاء، ج 6، ص 182، دارالكتب العلمية، بيروت)

## اس کی عقل عام لوگوں کی سی نہیں

**حدیث:** حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی

ہیں: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم

النَّحْرُ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّوْنِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَى بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاةً ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصَبِي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفَى اللَّهُ لَهُ. قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ: لَوْ وَهَبْتَ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمَبْتُلَى، قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ، فَقَالَتْ: بَرَأَ وَ عَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ)) ترجمہ: میں نے یوم نحر کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمنج وادی کے وسط سے جمرہ عقبہ پہ رمی فرما رہے تھے پھر آپ واپس پلٹے تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت اپنے بچے کو ساتھ لئے آپ کے پیچھے ہوئی، اس بچے پر کوئی آفت تھی جس کے باعث وہ کلام نہیں کر سکتا تھا اس عورت نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا اور میرے اہل کا پسماندہ ہے اور اسے ایک مصیبت پہنچی ہے جس کے باعث یہ کلام نہیں کر سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تھوڑا پانی لاؤ، پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھر وہ پانی اس عورت کو عطا کر دیا اور فرمایا: اس پانی میں سے اس بچے کو پلاؤ اور اس پر چھڑکو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے شفا مانگو، حضرت ام جندب کہتی ہیں میں اس عورت سے ملی اور کہا کہ کاش تم اس پانی میں سے کچھ مجھے دو تو اس نے کہا کہ یہ پانی اس مصیبت زدہ کے لئے ہے، حضرت ام جندب کہتی ہیں میں ایک سال بعد اس عورت سے ملی اور اس لڑکے کے بارے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ وہ صحت یاب ہو گیا اور ایسا عقلمند ہو گیا کہ اس کی عقل عام لوگوں کی سی نہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب النشرة، ج 2، ص 1168، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) المعجم الکبیر للطبرانی، ام جندب از دیہ، ج 25، ص 160، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ) مصنف ابن ابی شیبہ، فی

المريض مايرقى به ويعوذ به، ج 5، ص 48، مكتبة الرشد، رياض)

## ہاتھ درست ہو گئے

**حدیث:** حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں، ام جمیل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((اقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة بليلة طبخت طبيخا ففنى الحطب فخرجت أطلب الحطب فتناولت القدر فأنكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتفل على يدك وهو يقول (أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فما قتت بك من عنده حتى برأت يدك)) ترجمہ: میں سرزمین حبشہ سے تمہیں لے کر چلی یہاں تک کہ جب ایک رات مدینہ منورہ پہنچی اور کھانا پکا رہی تھی کہ لکڑی ختم ہو گئی میں لکڑی تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکلی تو دیکھی گری اور تمہارے ہاتھوں پر بہہ گئی پس میں تمہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک تمہارے ہاتھوں پر لگایا اور آپ کہہ رہے تھے ”اے سب لوگوں کے پروردگار اس سے تکلیف کو دور فرما دے، شفاء عطا فرما کہ تو شافی ہے اور تیرے سوا کوئی ایسا شفا دینے والا نہیں کہ بیماری اپنا نشان بھی نہ چھوڑے“ میں تمہیں لئے حضور کے پاس ہی کھڑی تھی کہ تمہارے ہاتھ درست ہو گئے۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر فاطمة بنت المجلد ام جمیل، ج 4، ص 70، دار الفکر، بیروت) ☆ دلائل النبوة لابی نعیم، دعاء و شفاء ید محمد بن حاطب، ج 1، ص 467، دار السنن، بیروت) ☆ دلائل النبوة للبيهقي، باب في نفثه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 6، ص 175، دارالكتب العلمية، بیروت) ☆ الخصائص الكبرى، ذکر معجزاته في ضروب الحيوانات، ج 2، ص 115، دارالكتب العلمية، بیروت)



## میں گواہی دیتی ہوں

**حدیث:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے

ہیں: ((كُنْتُ أَدْعُو أُمَّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَاسْمَعْتَنِي

فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا

أَبِكِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمَّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَابَنِي عَلَيَّ،

فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَاسْمَعْتَنِي فَبِكَ مَا أَكْرَهُ فَأَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجَتْ مُسْتَبْشِرًا

بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ،

فَسَمِعْتُ أُمَّي خَشْفَ قَدَمِي، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خُضْخُضَةَ

الْمَاءِ، قَالَ: فَاعْتَسَلْتُ وَكَبَسْتُ دِرْعَهَا وَعَجَلْتُ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ

قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

قَالَ فَارْجِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبِكِي مِنَ الْفَرَحِ،

قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ

فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا)) ترجمہ: میں اپنی مشرکہ ماں کو اسلام کی دعوت

دیا کرتا تھا، ایک دن میں نے اسے دعوت دی تو وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارے میں ایسی باتیں سنانے لگی جنہیں میں ناپسند کرتا تھا پس میں روتا ہوا حاضر بارگاہ

رسالت ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت

دیا کرتا تو وہ انکار کر دیتی اور آج میں نے دعوت دی تو اس نے مجھے آپ کے بارے وہ

باتیں سنائیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں، آپ اللہ عزوجل سے دعا کیجئے کہ وہ میری

ماں کو ہدایت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: یا اللہ عزوجل

ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بشارت پا کر نکلا اور اپنے دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا: اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ اور میں نے پانی بہنے کی آواز سنی، آپ کہتے ہیں میری والدہ نے غسل کیا، اپنی قمیص پہنی اور جلدی سے اپنا دوپٹا اوڑھ کر دروازہ کھولا اور کہا: اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا، میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رو رہا تھا، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمادی، تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا یہ بھلائی ہے۔

(صحیح مسلم، باب من فضائل ابی ہریرہ، ج 4، ص 1938، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

## صرف اشارے سے

**حدیث:** حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے

ہیں: (( وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثِينَ وَسِتُونَ صَنِمًا قَدْ أَلْزَقَهَا الشَّيَاطِينُ بِالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ فَكَانَ كُلَّمَا دَنَا مِنْهَا بِمُخَصَّرَتِهِ تَهَوَّى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ فَتَسَاقَطَ عَلَيَّ وَجُوهًا ثُمَّ أَمَرَ بِيَهْنٍ فَأُخْرِجَنِي إِلَى الْمَسِيلِ )) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو شیطانوں نے سیسہ اور تانبے کے ساتھ گاڑا تھا جب آپ اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے قریب ہوئے تو وہ بت چھوئے بغیر گرتے جاتے اور آپ فرما رہے تھے (حق آیا اور باطل مٹ گیا بیشک

باطل کو ثنا ہی تھا) تو وہ منہ کے بل گر رہے تھے پھر آپ نے حکم دیا اور ان بتوں کو میل کی طرف نکال دیا گیا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ذکر ما کان فی فتح مکة، ج 1، ص 519، دارالنفائس، بیروت) \* دلائل النبوة للبيهقي، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الخ، ج 5، ص 72، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

## طاقت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (( قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَانِي مَلَكًا وَأَنَا بَبْعُضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوْقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهْوَهُو؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ زَنَّهُ بِرَجُلٍ، فَوَزَنْتُ بِهِ فَوَزَنْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَزَنَّهُ بِعَشْرَةِ فَوَزَنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زَنَّهُ بِمِائَةِ فَوَزَنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتَهُمْ ثُمَّ قَالَ: زَنَّهُ بِأَلْفٍ فَوَزَنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتَهُمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا)) ترجمہ: میں نے رسول پاک صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کو کیسے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ارشاد فرمایا: اے ابوذر! میں مکہ المکرمہ کی وادی میں تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا، اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان رہا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا یہی وہ (ہمارے آقا) ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا: جی ہاں! ایک (اوپر والا) بولا: ان کا ایک شخص کے ساتھ وزن کرو، جب دوسرے (زمین والے) نے میرا ایک شخص کے ساتھ وزن کیا تو میں وزنی نکلا۔ پھر کہا: دس کے ساتھ وزن کرو، میرا دس کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی رہا، پھر کہا: سو کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا سو کے ساتھ وزن

کیا گیا تو میں وزنی رہا، پھر فرشتے نے کہا کہ ہزار کے ساتھ ان کا وزن کرو، میرا ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی رہا (بلکہ) گویا کہ میں ان ہزار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پلڑے کے ہلکے پن کی وجہ سے میرے اوپر اچھل کر گر پڑیں گے، فرشتے نے دوسرے سے کہا: اگر ان کا وزن ان کی پوری امت کے ساتھ بھی کرو گے تو یہ ان پر بھاری رہیں گے۔

(سنن دارمی، باب کیف کان اول شان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 164، دارالمغنی للنشر و لتوزیع، عرب، مشکوٰۃ المصابیح، ج 3، ص 1608، المکتب الاسلامی، بیروت)

ٹوٹ جائیں گے گنہ گاروں کے فوراً قید و بند

خسر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم

## رکانہ پہلوان

دلائل النبوة لابی نعیم، دلائل النبوة تلبیہتی، خصائص کبریٰ اور مواہب اللدنیہ

وغیرہ کتب میں ہے، واللفظ للآخر: ((انه كان بمكة رجل شديد القوة يحسن

الصراع وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة فيصرعهم. فبينما هو ذات

يوم في شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا

رمانة ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه أو كما قال له رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال له رمانة: يا محمد! هل من شاهد يدل على صدقك؟ قال:

أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم يا محمد، فقال له: تهياً

للمصارعة قال: تهيات فذنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم

صرعه، قال فتعجب رمانة من ذلك، ثم سأله الإقالة والعودة، ففعل به ذلك

ثانياً وثالثاً. فوقف رمانة متعجباً وقال: إن شأنك لعجيب)) ترجمہ: مکہ مکرمہ

میں ایک بہت طاقت ور شخص (رکانہ نامی) رہتا تھا، جو کہ بہت ماہر پہلوان تھا، لوگ



دوسرے شہروں سے اس کے پاس کشتی کرنے کے لیے آتے، وہ ان پر غالب رہتا، ایک دن مکہ کی کسی وادی میں اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: اے رکانہ! کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوتِ اسلام کو قبول نہیں کرتا؟، رکانہ نے آپ سے کہنے لگا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا آپ کی سچائی پر کوئی دلیل ہے؟، آپ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے، اس نے کہا: ہاں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!، تو آپ نے اس سے فرمایا: کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کہا: میں تیار ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس کو پکڑ کر پچھاڑ دیا، رکانہ اس سے حیران رہ گیا، اس نے پھر کشتی کرنے کے لیے کہا: نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو پچھاڑ دیا، اسی طرح تیسری مرتبہ اسے پچھاڑ دیا، رکانہ حیران و متعجب رہ گیا اور کہنے لگا: آپ کی شان بڑی عظیم ہے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ذکر خبر رکانہ، ج 1، ص 394، دارالتفائس، بیروت) ☆ دلائل النبوة للسیہقی، باب ماجاء فی استنصار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 6، ص 250، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ خصائص کبریٰ، ج 1، ص 215، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ الجواب اللدنیہ، الفصل الثانی فیما اکرم اللہ تعالیٰ بہ، ج 2، ص 133، 134، المكتبة التوفیقیہ، مصر)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی لڑی اور تین مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا پھر یہ مسلمان ہو گئے۔“

(بہار شریعت، حصہ 16، ص 512، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

## ابو الاسود جمحی پهلوان

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللفظ

للقسطانی: ((وقد صارع صلى الله عليه وسلم جماعة غير ركانة، منهم أبو الأسود الجمحي، كما قاله السهيلي. ورواه البيهقي، وكان شديدا بلغ من شدته وأنه كان يقف على جلد البقر ويجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفري الجلد ولم يتزحزح عنه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصارعة وقال: إن صرعتني آمنت بك، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ کے علاوہ پہلوانوں کی ایک جماعت سے کشتی کی ہے، ان میں سے ابوالاسود جمحی پہلوان بھی ہے جیسا کہ سہیلی نے اسے ذکر کیا ہے اور امام بیہقی نے (بھی) اسے روایت کیا ہے، یہ شخص بہت طاقتور تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا اور دس آدمی کھال کو کھینچتے تاکہ اس کے قدموں کے نیچے سے کھال کو نکال لیں، کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی مگر ابوالاسود ذرا برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹتا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا مگر وہ ایمان نہ لایا۔

(المواہب اللدنیہ، الفصل الثانی فیما اکرم اللہ تعالیٰ بہ، ج 2، ص 134، المکتبۃ التوفیقیہ، مصر) ☆  
جمع الوسائل فی شرح الشمائل للقاری، باب ماجاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 2، ص 170، المطبعة الشرفیہ، مصر)

## واللہ وہ سن لیں گے

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں:

((ان رسول الله صلى الله عليه وآله ومنع بات عندها في ليلتها، فقام يتوضأ للصلاة، فسمعته يقول في متوضئه: لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت، ثلاثا، فلما خرج قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول في متوضئك: لبيك لبيك ثلاثا،

نُصِرْتُ نُصِرْتَهُ ثَلَاثًا، كَأَنَّكَ تُكَلِّمُ إِنْسَانًا، فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَالَ:  
 هَذَا رَاجِزُ بَنِي كَعْبٍ يَسْتَصْرِخُنِي، وَيَزْعُمُ أَنَّ قَرِيضًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي  
 (بَكْرٍ) ترجمہ: ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے قیام فرمایا، حضور  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے تاکہ نماز کے لیے وضو فرمائیں، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ  
 تعالیٰ علیہ وسلم دورانِ وضو تین مرتبہ فرمایا: لبیک لبیک لبیک، اور تین مرتبہ فرمایا: تمہاری  
 مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف  
 لائے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ دورانِ وضو فرما رہے  
 تھے: لبیک لبیک لبیک، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، گویا کہ  
 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انسان سے کلام فرما رہے تھے، کیا آپ کے ساتھ کوئی  
 تھا؟ فرمایا: بنی کعب کا راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا، اس کا گمان تھا کہ قریش نے  
 ان کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے۔

(المتعجم الصغير، من اسمه احمد، ج 2، ص 167، المكتب الاسلامي، بيروت، دلائل النبوة  
 لاسماعيل الاصمبھاني، ص 73، 74، دار طيبة، الرياض)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلوں دور موجود  
 راجز کی آواز بھی سن رہے ہیں اور نصرت نصرت نصرت فرما کر ان کی مدد بھی فرما رہے  
 ہیں۔

فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو  
 واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے

مَلَّتْ

## ماخذ ومراجع

قرآن مجید، کلام الہی

(ترجمہ قرآن کنز الایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان

متوفی 1340ھ)

## کتب التفاسیر

(معالم التنزیل (تفسیر بغوی)، امام ابو محمد الحسین بن مسعود فراء

بغوی متوفی 516ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد انصاری

قرطبي متوفی 671ھ، دارالکتب العربی، بیروت)

(تفسیر الخازن، علاء الدین علی بن محمد بغدادی متوفی 741

ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(الدر المنثور، امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی

911ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

(روح البیان، مولی الروم شیخ اسماعیل حقی بروسی

متوفی 1137ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(روح المعانی، ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی

1270ھ، دارالفکر، بیروت)

## کتب الحدیث

(مؤطا امام مالک، المؤلف: مالک بن انس بن مالک بن عامر الأصبحی

المدنی (المتوفی 179ھ، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

(المصنف لعبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری

الیمانی الصنعانی (المتوفی 211ھ، المجلس العلمی، بیروت)

(المصنف لابن أبی شیبہ، حافظ عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ کوفی



عبسی متوفی 235ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت و مکتبۃ الرشید، الرياض  
والدار السلفیۃ، الہندیۃ)

(المسند للإمام أحمد بن حنبل، امام احمد بن محمد بن حنبل

متوفی 241ھ، مؤسسة الرسالہ، بیروت و المکتب الاسلامی، بیروت)

(مسند الدارمی، المؤلف: أبو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل

بن بہرام بن عبد الصمد الدارمی، التیمی السمرقندی

(المتوفی 255ھ، دارالمحاسن للطباعة، قاہرہ)

(صحیح البخاری، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی

256ھ، دارطوق النجاة، شاملہ و قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(صحیح مسلم، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی

261ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت و قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(سنن ابن ماجہ، امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی

273ھ، داراحیاء الکتب العربی، حلب و ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

(سنن أبی داود، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی

275ھ، آفتاب عالم پریس، لاہور)

(جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی

279ھ، دارالفکر، بیروت و قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(البحر الزخار، أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید

اللہ العتکی المعروف بالبزار (المتوفی 292ھ، مکتبۃ العلوم والحکم،

مدینۃ المنورۃ)

(مسند أبی یعلیٰ، شیخ الاسلام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن مثنیٰ موصلی

متوفی 307ھ، مؤسسة علوم القرآن، بیروت)

(صحیح ابن خزیمہ، المؤلف: أبو بکر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن

المغيرة بن صالح بن بكر النسلمي النيسابوري (المتوفى 311هـ، المكتب الاسلامي، بيروت)

(شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاولي (المتوفى 321 هـ، ايج ايم سعيد كمپني، كراچي)

(شرح مشكل الآثار للطحاولي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاولي (المتوفى 321 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(المعجم الكبير للطبراني، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، متوفى 360هـ، المكتبة الفيصلية، بيروت ومكتبه ابن تيميه، القايره)

(المعجم الأوسط للطبراني، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، متوفى 360هـ، مكتبة المعارف، رياض ودار الحرمين، القايره)

(الجامع الصغير، امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، متوفى 360هـ، المكتب الاسلامي، بيروت)

(الكامل لابن عدي، امام ابو احمد عبدالله بن عدي جرجاني، متوفى 365هـ، دار الفكر، بيروت)

(سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى 385هـ، دار المعرفة، بيروت)

(المستدرک للحاکم، امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نيشاپوري متوفى 405 هـ، دار الفكر، بيروت ودار الكتب العلمية، بيروت)

(السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخضر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى 458هـ، دار صادر

، بیروت)

(تاریخ دمشق الكبير، علامہ علی بن حسن، متوفی 571ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

(شرح النووی، امام محی الدین ابوز کریا یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676ھ، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(مشکاة المصابیح، علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی 742ھ، المكتب الاسلامی، بیروت و قدیمی کتب خانہ، کراچی)

(مجمع الزوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیتمی متوفی 807ھ، مكتبة القدس، القاہرہ و بیروت دارالکتب بیروت)

(فتح الباری، امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت و دارالمعرفہ، بیروت)

(عمدة القاری، امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی 855ھ، داراحیاء التراث العربی، بیروت و دارالکتب العلمیة، بیروت)

(إرشاد الساری، شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی متوفی 923ھ، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(کنز العمال، المؤلف: علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان القادری الشاذلی الہندی البرہانفوری ثم المدنی فالمکی الشہیر بالمتقی الہندی (المتوفی 975ھ، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

(المرقاة، کتاب العلم، علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی 1014ھ، المكتبة الحبیبة کوئٹہ)

(أشعة اللمعات، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی 1052ھ، مكتبة نوریہ رضویہ، سکھر)

(حاشیہ سنہدی علی سنن نسائی، المؤلف: محمد بن عبد الہادی  
التتوی، أبو الحسن؛ نور الدین السنہدی (المتوفی 1138ھ، المطبوعات  
الاسلامیہ، حلب)

(الترغیب والترہیب، امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی  
منذری متوفی 1248ھ، مصنفی البابی، مصر)

### کتاب العقائد

(میزان الشریعة الکبریٰ، عبد الوہاب بن احمد بن علی بن احمد شعرانی  
متوفی 973ھ، دار الکتب العلمیة، بیروت)

(تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  
متوفی 1239ھ، سہیل اکیڈمی، لاہور)

### کتاب السیرة

(مغازی الواقدی، المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السہمی الأسلمی  
بالولاء، المدنی، أبو عبد اللہ، الواقدی  
(المتوفی 207ھ، دار الاعمی بیروت)

(دلائل النبوة للبیہقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی  
الخسرو جردی الخراسانی، أبو بکر البیہقی (المتوفی  
458ھ، دار الکتب العلمیة، بیروت)

(البداية والنهاية، عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی  
متوفی 774ھ، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی متوفی  
911ھ، دار الکتب العلمیہ، بیروت و گجرات، الہند)

(انموذج اللیب، المؤلف: عبد الرحمن بن ابی بکر، جلال الدین  
السیوطی (المتوفی 911ھ، وزارة الاعلام، جدہ)



(الجوہر المنظم، شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر ہیتمی  
متوفی 974ھ، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

(سیرت حلیہ، المؤلف: علی بن ابراہیم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور  
الدين ابن برهان الدين (المتوفى 1044ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

### کتاب التصوف

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، القاضي ابو  
الفضل عياض مالكي متوفى 544ھ، دارالفيحاء، عمان)

(المواهب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني، شهاب الدين احمد بن  
محمد قسطلاني متوفى 932ھ، المكتب الاسلامي، بيروت)

(شرح الشفاء لملا علي قاري، ملا علي قاري هروي حنفي  
متوفى 1014ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن  
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني  
المالكي (المتوفى 1122ھ، دارالمعرفة، بيروت)

(اتحاف السادة المتقين بحواله ابن حبان والحاكم، سيد محمد بن  
سعد، جسيني زبيدي، متوفى 1205ھ، دارالفكر، بيروت)

### کتاب الفقه

(ردالمحتار، محمد امين ابن عابدين شامی متوفى  
1252ھ، دارالفكر، بيروت)

(فتاوى رضويہ، اعلى حضرت امام احمد رضا خان متوفى 1340ھ،  
رضافاؤنڈیشن، لاہور)

### التراجم والطبقات

(الطبقات الكبرى لابن سعد، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن

منیع الهاشمی بالولاء، البصری، البغدادی المعروف بابن سعد  
(المتوفی، 230ھ، دارصادر، بیروت)

(التاریخ الكبير، امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بخارى متوفى  
256ھ، دارالباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة)

(الاستيعاب، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 463ھ، دارالجيل، بيروت)

(اسد الغابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير

(المتوفى 630ھ، دارالفكر، بيروت)

(الاصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 852ھ، دارالفكر، بيروت)

### متفرق كتب

(تلخيص الذهبى على المستدرک على الصحیحین للحاکم، المؤلف:  
أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي، أبو مسعود (المتوفى 258ھ،

دارالكتب العلمية، بيروت)

(المقاصد الحسنة، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  
الرحمن بن محمد السخاوى (المتوفى 902ھ، دارالكتاب العربى، بيروت)

(القول البديع فى الصلوة على الحبيب، المؤلف: شمس الدين أبو الخير  
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى (المتوفى 902ھ، دارالريان

للترات

(الكواكب الدرية فى مدح خير البرية (قصيده برده)، المؤلف: سليمان  
بن خالد الحربى، مركز اهل سنت كجرات، الهند)

(شرح خريوتى على البرده، علامه عمر بن احمد الخريوتى، نور محمد

اصح المطالع کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

(تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی متوفی 1246ھ، مطبع علمی اندرون

لوہاری دروازہ، لاہور)

(حدائق بخشش، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی 1340، ناشر

اکبر بک سیلرز، لاہور)





## مصنف کی دیگر قابل مطالعہ کتب

مصنف	نام کتاب
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مفتی محمد ہاشم خان عطاری	مطلع القمرین فی ابانۃ سبقتہ العرین ترجمہ و تحقیق و تخریج و تقدیم، تحشیہ
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	فیضان فرض علوم
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	احکام تعویذات مع تعویذات کاثبوت
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	احکام عمائمہ مع سبز عمائمہ کاثبوت
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	احکام داڑھی مع وجوب داڑھی پر دلائل
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	احکام لقمہ
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معمولات و نظریات
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	محرم الحرام اور عقائد و نظریات
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	معراج النبی اور معمولات و نظریات
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	تلخیص فتاویٰ رضویہ جلد 5
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	تلخیص فتاویٰ رضویہ جلد 6
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	تلخیص فتاویٰ رضویہ جلد 7
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	تلخیص فتاویٰ رضویہ جلد 8
مفتی محمد ہاشم خان عطاری	تلخیص فتاویٰ رضویہ جلد 9

تَقْرُبَاتِ السَّلَامِ وَتَقُولُ أَنْ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبَتْ قَتَلَتْ  
فَقَالَ ضَمَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبُ فَأَدْعُرُّ لِي قُلَانًا وَقُلَانًا وَرَجُلَانًا سَمَاهُمْ وَأَدْعُرُّ  
لَقَبَيْتِ فَذَعُوتُ مَنْ سَمِي وَمَنْ لَقَبَيْتُ فَرَجَعْتُ فَأَيُّ الْبَيْتِ خَاصٌّ يَا هَلِيلَ قَبِيلِ  
لَأَنْسَ عَدَدَ كُمْ كَأَنُورِ أَهْ قَالَ زَهَاءُ ثَلَاثَ مِائَةٍ. فَكَرَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَضَمَعُ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشْرَةَ  
عَشْرَةً يَا كَلُونَ مِنِّي وَيَقُولُ لَهُمْ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَا كُلَّ كَلِّ رَجُلٍ مِمَّا  
يَلِيهِ قَالَ: يَا كَلُوا حَتَّى شَبَعُوا. فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا  
كُلَّهُمْ قَالَ لِي يَا أَنْسُ ارْفَعُ فَرَفَعْتُ فَمَا أُدْرِي حِينَ وَضَعْتَ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ  
حِينَ رَفَعْتَ. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ  
فعلیہا عنہا سے نکاح فرمایا تو میری والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھجور، گلی اور بئیر کا قصہ کیا  
اور جلوہ تیار فرمایا پھر اسے ایک برتن میں ڈال کر فرمایا کہ اے اس سے رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا اور کہنا کہ یہ میری والدہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ  
آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ  
میں ایک حقیر سا ہدیہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں کیا اور وہی عرض کی تو فرمایا کہ اسے رکھ دو  
پھر بعض حضرات کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں فلاں کو میری طرف سے بلا لاؤ اور جو  
مجھے ملے اسے بھی دعوت دے دو تو جن کا نام یہ تھا جن سے میں ملا تھا ان سب کو میں  
نے دعوت دے دی پھر میں واپس لوٹا تو گھر پہرا ہوا تھا، حضرت اُس سے استفسار ہوا  
کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا تین سو کی جماعت تھی، پھر میں نے سرکار علیہ  
السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس جلوہ پر رکھا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا پھر  
دس دس کو بلانا شروع کیا وہ اس میں سے کھاتے تھے اور آپ انہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا  
نام لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھایا حتیٰ کہ